


کتاب کے بچہ حقوق بموجب ایکٹ نمبر ۳ مجریہ ذریعہ ۱۹۱۲ء (کاپی رائٹ) محفوظ ہیں



سلسلہ تالیفات قریشی کتب انجمنی لاہور نمبر ۲۰

لاہور کے آکر کا

خلافت صدیقی

یعنی

ظیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے حالات

چھوٹی بچوں اور سورتوں کے لئے

سید سلیمان

محترمہ عزیز بیگم صاحبہ


جماعت
سید میرزا سولانا

محققہ حفیظہ اللہ دہری جرنل مالک قریشی انجمنی لاہور

نے بدواً حقوق عوامی ۱۳۳۲ء ہجری میں شائع کیا

نمبر ۱۰

کتاب کے جلد حقوق بوجب ایکٹ نمبر ۳۲ مجریہ فوری سن ۱۹۷۲ء (کاپی رائٹ) محفوظ میں



سلسلہ تالیفات قریشی کتب انجمنی لاہور نمبر ۲۰

لاہور کے آسماں خلافتِ صدیقی

یعنی

خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے حالات
چھوٹی بچیوں اور سستوراہ کے لئے

سید محمد رفیع
مختصر عزیز بیگم صاحبہ

جھانگت سنگھ
پبلشرس مینا سٹریٹ لاہور

مختصر حقیقت اللہ فوری جرگت مالک قریشی انجمنی لاہور

نے بعد از حقوق مدعی ۱۳۴۲ھ ہجری میں شائع کیا

مناجح الہدیہ

مردانہ ماہر حضرت غلاف الہدیہ و سخی نقیہ بیت اللہ شریف

اس کتاب میں کہ غلاف کی کتاب سے تمکون کی فصلوں میں کچھ کتابت حضرت اور سخی
کھجائی اور اس فصل میں ہوتے جو ان کتابت سے کچھ انکا متصل ہے کہ وہ اور جو انکا
پیرا ان کے مقالہ اور وہاں جا کر پڑھنے کے لئے اور وہاں میں جا کر پڑھنے کے لئے
کے لئے ہے۔ اور سخی کہ وہاں میں آئے ہیں اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے
پڑھنے کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

مناجح مدینہ منورہ

مردانہ ماہر حضرت غلاف الہدیہ و سخی نقیہ بیت اللہ شریف

اس کتاب میں کہ غلاف کی کتاب سے تمکون کی فصلوں میں کچھ کتابت حضرت اور سخی
کھجائی اور اس فصل میں ہوتے جو ان کتابت سے کچھ انکا متصل ہے کہ وہ اور جو انکا
پیرا ان کے مقالہ اور وہاں جا کر پڑھنے کے لئے اور وہاں میں جا کر پڑھنے کے لئے
کے لئے ہے۔ اور سخی کہ وہاں میں آئے ہیں اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے
پڑھنے کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

مردانہ ماہر حضرت غلاف الہدیہ و سخی نقیہ بیت اللہ شریف

۲۹۵۹۹۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سیرت النبی کریم ص ۱۵۴
۲۰۱۹

خلافت صدیقی

بسم

Shayed Agha

عرض حال

میری مسلم بہنو! عزیز بھائیو! اور بزرگو!

کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم مسلمان روز بروز کیوں تباہ حال ہو رہے ہیں؟ آج دنیا کے مسلمان عموماً اور مسلمانان ہندوستان خصوصاً طرح طرح کی مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دیگر اقوام جن کا دامن دولت و سعادت سے خالی ہے، میدان ترقی میں دوڑ لگا رہی ہیں! اس کا سبب یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے بزرگوں کی قابل تقلید

سیرت بھلا بیٹھے ان کے نقش قدم پر چلنا تو بڑی بات ہے۔ آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ حضور خاتم النبیین اور ان کے جانشین خلفاء راشدین نے دنیا کی بھلائی اور بنی نوع انسان کی بہتری کے واسطے کیا کچھ کیا باہم پردے میں بیٹھے والیاں اور معصوم بچے تو کس شمار میں! ہمارے وارث مرد بھی تاریخ اسلام سے ناواقف ہیں۔ پس ہماری پستی کا سبب یہی ہے۔

کچھ شک نہیں کہ ہماری تاریخ نہایت شاندار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہند ب دنیا ہمارے بزرگوں کے کارنامے نہایت فخر سے دہرائی اور دنیا کو سناتی ہے۔ پھر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے بزرگوں کے حالات اور سیرت سے ناواقف ہوں اور غیر مسلم ان کا ذکر ادب و فخر سے کریں۔

اسلام نے مساوات و عدل کے ایسے ایسے لطیف منکے دنیا کے روبرو پیش کیے۔ کہ ہند ب یورپ آج بھی انھیں دیکھ کر حیران بلکہ ان کا خوشہ چین ہے۔ مغربی مالک کی ترقی کا سنگ بنیاد۔ بیشک شبہہ۔ قرآنی تعلیم۔ نیز پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کے طرز عمل پر رکھا گیا اور انھیں سنہری اصول پر چل کر اس غیر مسلم قوم نے آنکھوں میں چمکا چو تدبیر کر سنے والی ترقی کی کہ اللہ کی سنت اور قدرتی قانون یہی ہے! یہاں رسم

اس کے بالمقابل ہم مسلمان اپنی شاندار روایات بھول بیٹھے۔

ہم نے اپنے بزرگوں کے شاندار کارنامے دل سے بھلا دیے۔ جس کی ہمیں سزا بھی سخت ملی کہ آج زوال کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ موجودہ تکلیفیں ان مصیبتیں ہماری شامت اعمال ہیں اور پس! پیاری بہنو! میں نے ارادہ کیا ہے کہ خلفاء راشدینؓ کے مبارک حالات مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ اس شہری سلسلہ کی پہلی کڑی خلافت صدیقی کے نام سے آپ کے روبرو ہے۔ اس کے بعد دیگر خلفاء راشدینؓ اور بزرگان دین کے کارنامے سلسلہ وار پیش کروں گی۔

اس تالیف کی غرض محض یہ ہے کہ مسلم بہنیں اور عزیزینچے بالخصوص اور نوجوان و عمر رسیدہ مسلمان بھائی بالعموم۔ ان اور ان کا مطالعہ کر کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اور اس طرح پھر اپنا عروج رفتہ واپس لائیں۔

آج سرکاری۔ غیر سرکاری۔ مسلم و غیر مسلم مدرسوں میں جو کچھ تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہمارے درد کا حقیقی علاج نہیں ہے۔ موجودہ نصاب مسلمانوں کی پستی دور کر کے انہیں ادج عروج کی چوٹی پر نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں کیڑے کوڑوں کے حالات یا تیز ریچھ اور بندر کی کہانیاں مسلمانوں میں صحیح جو شش عمل نہیں پیدا کر سکتے۔ بلکہ ان میں روح عمل اسلامی روایات اور بزرگان دین کے کارنامے ہی پیدا کر سکتے ہیں!

تعجب بلکہ افسوس ہے کہ اسلامی درس گاہیں بھی مذکورہ بالا ناقص تعلیم و نصاب پر قانع ہو گئیں۔ اور ان کے منتظمین نے بھی یہ نکتہ فراموش کر دیا کہ تعلیم اسلام نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے درد کا علاج صرف یہی نسخہ ہے۔

خیر! اب محض غلطیوں کا اعادہ نہیں بلکہ تلافی ہونی چاہئے اس لیے میں اپنے ان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے دُعا کے ساتھ میں اسلامیہ مدارس کا سیاہ و سفید ہے امید کرتی ہوں کہ وہ میری یہ تالیفات اپنے مدرسوں کے نصاب میں شامل کر کے اپنا بھولا ہوا فرض ادا کریں گے۔

میں اس امید کے ساتھ جناب باری میں دُعا کرتی ہوں کہ بار الہا میری یہ ناچیز خدمت قبول فرما! اور میری مسلم بہنوں! فرزندوں اور بھائیوں اور ہم سب کو بزرگان دین اور حاملان شرع عتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت کر۔ آمین!

Azhar

اسلام اور مسلمانوں کی خادمہ
عزیز خاتون

Z

یکم جولائی
۱۹۲۹ء

ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر

Amir

گیارہ بجے کا عمل ہے۔ لاہور کے ایم۔ بی زمانہ سکول کی
لڑکیاں اپنی کتابیں اور بستے سنبھال سنبھال کر چھٹی کی تیاریاں
کر رہی ہیں۔ گھر جانے کی خوشی کے خیال سے ان کے چہرے پھول
کی طرح کھل گئے ہیں۔

نیک دل اور عمر رسیدہ استانی چھٹی جماعت کو سبق پڑھا کر اپنی
کرسی پر بیٹھیں تو ایک لڑکی (جس کے چہرے سے زہانت ٹپک رہی تھی)
ادب سے استانی کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی۔ استانی نے نظر
اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر سوال کیا کہ کیا کچھ کہنا ہے۔ کیا چاہتی ہو؟
کنیئر فاطمہ۔ بیوی جی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں
کیا اجازت ہے؟

استانی۔ شوق سے ایک نہیں دس باتیں پوچھو۔ ہم تم سے بہت
موشش ہیں۔ تم اپنا سبق خوب یاد کرنی ہو اور روزہ نماز کی بھی بڑی
پابند ہو۔ اچھا پوچھو کیا پوچھتی ہو؟

کنیئر فاطمہ۔ استانی جی ہمارے محلہ کی مسجد کی محراب والی دیوار
پر ایک شعر نہایت خوشخط اور خوبصورت حروف میں لکھا ہے اور جو
شاید ہر مسجد کی محراب پر لکھا ہوتا ہے۔

استانی کونسا شعر کیا یاد نہیں؟
فاطمہ جی یاد کرتی ہوں۔ فارسی کا شعر ہے۔ ہاں یاد آ گیا۔ سنئے:

چراغ و مسجد و محراب و منبر

ابو ہنیکہ و عشر عثمان و حیدر

استانی۔ تو کیا تم اس شعر کا مطلب نہیں سمجھیں؟

فاطمہ۔ استانی جی پہلے مصرعہ میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے میں ان کے معنی تو جانتی ہوں۔ لیکن دوسرے مصرعہ میں جو چار نام آئے ہیں مجھے ان کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بزرگ ہمارے رسول مقبول کے اصحاب اور دوست تھے۔ بس اس سے زیادہ ان کا حال نہیں جانتی! استانی صاحبہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟

استانی۔ تم نے بات بڑی اچھی سوچی ہے۔ یہ باتیں مسلم بچیوں اور بچیوں بلکہ بڑی عمر کے مردوں اور بچیوں کو بھی جانا ضروری ہے مگر مشکل یہ ہے کہ یہ مدرسہ گو پاسر کاری ہے اول تو ہمیں یہاں فرصت ہی کہاں! پھر فرصت ہو بھی تو یہ باتیں یہاں موزوں نہیں۔ البتہ ایک صورت ہے۔

فاطمہ۔ (بے صبری سے) تو فرمائیے کہ وہ کونسی صورت ہے مجھے بڑا ہی شوق ہے۔

استانی۔ بیٹی فاطمہ! میں تمہارا یہ شوق دیکھ کر بے حد خوش ہوں۔ ہاں تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم کسی تعطیل کے دن ہمارے

مکان پر آجاؤ۔ پس ہم تمہیں ان بزرگوں کے حالات سے خبردار
 کر دیں گے اور تم جو سوال کرو گی ان کے جواب بھی دیں گے۔
 فاطمہ۔ آپ کی رائے بہت خوب ہے۔ پرسوں اتوار ہے۔ میں
 جناب کے مکان پر حاضر ہو جاؤں گی۔

استمائی۔ بہتر! لیکن زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے
 ساتھ اپنی کچھ سہیلیوں کو بھی لے آؤ۔ تاکہ وہ بھی صحابہ کرام کے مقدس
 حالات سے واقف ہو جائیں۔

فاطمہ۔ بیچ مائیے استمائی جی۔ آپ نے یہ بات میرے دل کی
 کہی۔ میرا دل بھی یہی چاہتا ہے۔ اچھا تو میں پرسوں کوئی نو بجے کے
 قریب اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر حضور کے دولت خانہ پر حاضر
 ہو جاؤں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

استمائی۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں بھی تیار رہوں گی۔

یہ گفتگو مدرسہ کی اور مسلم طالبات نے بھی سنی اور ان کے لمبے
 بھی خلفار راشدین کے حالات معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ
 آنکھوں نے کنیز فاطمہ سے اس بات کی درخواست کی اور اس نے
 خوشی سے مان لیا وہ تو چاہتی ہی یہ تھی۔

عین اس وقت مدرسہ کے گھنٹے نے ٹھنڈا ٹھنڈا بارہ بج کر چھٹی کا
 اعلان کیا اور تمام لڑکیاں اپنے اپنے نفل میں ڈبا ڈبا کر اپنے گھر
 چلی گئیں۔ کنیز فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی اپنے اپنے مکان چلی گئیں

کنیز فاطمہ کھانا کھانے کے بعد کوئی دو گھنٹے سوئی۔ پھر آنکھیں
 ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور اس کے بعد وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھی
 اور دعا مانگ کر نماز سے اٹھ بیٹھی۔ اب اس نے اپنی چند
 بہیلیوں کو اپنے مکان پر لٹکا بھیجا اور جب وہ آگئیں تو ان سے
 گفتگو کی۔

کنیز فاطمہ۔ بیاری بہنو! کیا تم جانتی ہو کہ مسجدوں کی عمارتوں
 پر عام طور پر جو چار نام موٹے موٹے حروف میں لکھے رہتے ہیں وہ
 کن کے ہیں اور وہ بزرگ کون تھے۔
 صفیہ۔ میں تو نہیں جانتی۔

صغریٰ۔ مجھے بھی خبر نہیں۔ شاید وہ بہت بڑے آدمی ہوں!

تقریباً تمام لڑکیوں نے بے خبری ظاہر کی۔
 کنیز فاطمہ۔ بہنو! وہ چاروں بزرگ واقعی بہت بڑے آدمی تھے
 لیکن ان کے تمام حالات سے تمہاری طرح میں بھی بے خبر ہوں۔ اسٹی
 میں نے استانی جی سے وعدہ لیا ہے۔ وہ پیرسوں اتوار کے دن
 ہمیں ان بزرگوں کے حالات سنائیں گی۔ میں ان کے مکان پر
 جاؤں گی! مگر بہنو میری آرزو ہے کہ تم سب بھی چل کر اسلامی
 بزرگوں کے حالات سنو۔

سب۔ بے شک! بے شک ہم ضرور سنیں گی۔
 کنیز فاطمہ۔ سب ڈولیوں کا کہہ کر یہ میرے ذمہ ہوگا

زیر سیدہ - جزاک اللہ!
 کنیز فاطمہ - آج جمعہ ہے۔ کل ہفتہ پرسوں اتوار ہے۔ پس
 نو بجے سے پہلے پہلے استانی جی کے مکان پر پہنچ جانا۔ میں بھی
 ٹھیک وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ انشاء اللہ۔

سب - ہم سب بھی وقت پر پہنچ جائیں گی۔ انشاء اللہ۔
 اس فیصلے کے بعد تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔
 کنیز فاطمہ کے دل میں شوق کی آگ بے طرح بھڑک اٹھی
 تھی۔ اسے ایک ایک گھڑی دو بھر ہو گئی تھی۔ اس نے درمیانی
 وقت بڑی مشکل سے گزارا۔ آخر خدا خدا کر کے ہفتے کی رات
 ختم ہوئی تو کنیز فاطمہ پانچ بجے بستر سے اٹھی۔ ضرور یا بت سیرمنٹ کر
 وضو کیا۔ پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت میں
 مصروف ہوئی اور آٹھ بجے اس نے فارغ ہو گئی۔

اسی وقت سے اس کی سہیلیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ بعض کو
 اسے بلوانا پڑا۔ بہر حال جب وہ سب جمع ہو گئیں تو ڈولیاں
 منگائی گئیں اور تمام لڑکیاں ایک کے بعد دوسری سوار ہو کر
 استانی کے مکان کی طرف روانہ ہوئیں۔

جب یہ سب لڑکیاں استانی کے مکان پر پہنچیں تو ادھر سے
 کنیز فاطمہ کی ہم جماعت لڑکیاں بھی آ رہی تھیں۔ جنہیں دیکھ کر استانی
 نے بڑی خوشی ظاہر کی۔ انہیں جگہ فرمائیں پر بٹھایا۔ اور پھر

شریت وغیرہ سے ان کی تواضع کی۔

اب استانی ایک قالین پر بیٹھ گئیں اور لڑکیاں ان کے سامنے
اور رہنے بائیں۔ آخر کار استانی نے تقریر شروع کر دی۔

استانی۔ پیاری گر کیو! میں تمہارا یہ دینی مشورہ دیکھ کر بہت خوش
ہوں! یہ مبارک فال ہے کہ تم نے اپنی چھٹی اور کھیل تفریح کا وقت

اس نیک کام میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے سب سے پہلے تم سے یہ
کہنا ہے کہ اگر میں بھی محض کسی سرکاری مدرسہ میں پڑھتی تو اس وقت

تمہیں صحابائے کرام کے حالات کچھ نہ بتا سکتی۔ کیونکہ خود ہی ان سے
ناواقف ہوتی۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اپنے میکے نیز

سسرال میں دینی کتابوں کے مطالعہ کا موقع ملا۔ میں نے اسلامی
تاریخ خصوصاً خلفائے راشدین کے حالات کا مطالعہ خوب غور سے

کیا۔ پس اسی کی بدولت میں آج تمہیں ان بزرگوں کے حالات بتانے
کے قابل ہوں۔ یہ بات کچھ کم افسوسناک نہیں ہے کہ مدرسوں میں ایسی

تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ اور تو اور اسلامیہ مدارس میں بھی اس کا
سعقول بندہ نسبت نہیں ہے!

خیر! میں اصل بات پر آتی ہوں۔ چونکہ یہ ناممکن ہے کہ چاروں
خلفائے راشدین کے حالات آج ہی بیان کیے جاسکیں۔ لہذا آج میں صرف خلیفہ

اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات تمہیں سناؤں گی۔
لڑکیاں۔ بہت خوب سنائیے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول

استمائی پٹیو! رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے حسب و نسب اور ذاتی خوبیوں کی وجہ سے اس قابل تھے کہ یہ اعلیٰ منصب ان کے سپرد کیا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی تمیم اور حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ قریش کے دسوں قبیلے عرب بھر میں ممتاز سمجھے جاتے تھے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت قبل اسلام میں بھی ثمانہ کعبہ کے متولی تھے۔

خاندان بنو تمیم زمانہ جاہلیت میں دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ماوان اور دیت کا محکمہ اسی کے سپرد تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قبیلہ دیانت دار تھا اور قوم کو اس کا ہر طرح اعتبار تھا۔

کیٹر فاطمہ۔ کیا ان کا نام اسلام لانے سے پہلے بھی یہی تھا؟ استمائی نہیں! پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ بعد میں عبد اللہ ہوا۔ آپ کا لقب عتیق تھا مگر صدیق زیادہ مشہور ہے۔ صدیق کے معنی سچا اور عتیق کے معنی جہیمہ اور آزاد وغیرہ ہیں! صفیہ۔ اور آپ کے والد کا اسم مبارک کیا تھا؟ اور والدہ کا؟

استثانی۔ آپ کے والد کا نام ابی قحافہ بن عامر اور والدہ
 ماجدہ کا نام سکی تھا جو صحیح بن عمرو کی دختر اور قحافہ کی چچا زاد بہن
 تھیں۔ ابی قحافہ کا اصل نام تغامہ تھا۔ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان
 ہوئے اور رسول کریم نے آپ کا نام عثمان رکھا۔ آپ ہجرت کے
 بعد مدینے آئے اور زمانہ وفات ۳۷ھ تک وہیں رہے۔ ستاونے
 (۹۷) سال عمر پائی۔ فرزند کی خلافت کا زمانہ دیکھا۔
 رقیہ کیا یہ صحیح ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہی
 ایمان لائے؟

استثانی: ہاں یہ صحیح ہے۔

حسیبہ۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ پہلے حضرت علیؑ ایمان لائے تھے؟
 ساطانہ۔ اور میری والدہ کل فرما رہی تھیں کہ سب سے پہلے رسول
 مقبول کی پاک زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے توحید کا اقرار کیا اور
 حضرت کو رسول مانا۔

استثانی۔ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ بچوں میں سب
 سے پہلے حضرت علیؑ فرج اولوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور عورتوں
 میں حضرت خدیجہؑ داخل اسلام ہوئیں
 کنیز قاطمہ۔ کیا حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے پہلے زمانہ کا
 حال بھی کتابوں میں لکھا ہے؟

استثانی۔ ہاں، اور میں پہلے تھیں وہی بتانا چاہتی ہوں تاکہ

حالات سلسلہ وار رہیں۔

سلطانہ۔ فرمائیے!

استمائی حضرت ابو بکرؓ کے معظّمہ میں کپڑے کی تجارت کرتے اور خوش حال تھے۔ آپ اس وقت بھی حلیمہ بامرّوت سحی رحمہ دل اور پاک دامن تھے۔ آپ نے ان ایام میں بھی شراب نہیں پی۔ آپ نہایت راست باز تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی خوبیاں اور بھی چمک اٹھیں۔ جب ابتدا میں رسول اللہ نے اسلام حضرت ابو بکر کے رو برو پیش کیا تو ان کے مذاق سلیم نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:-

میں نے جسے اسلام کی دعوت دی وہ اس میں متائل کرتا

رہا۔ مگر ابو بکرؓ نے فوراً قبول کر لیا!

اور یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت اور بزرگی ہے!

ایک اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا زبردست

ثبوت ہے جس کا مضمون یہ ہے:-

ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی انسان (نبی کریم کے سوا)

ایسا نہیں ہوا جس پر سورج طلوع ہوا ہو یا مغرب ہو۔

کئیتر فاطمہ۔ غالباً اسلام لانے کے بعد انھوں نے رسول اللہ

اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی ہوگی۔

استمائی۔ بے شک! اور اب میں یہی بتانا چاہتی ہوں۔

رقیبہ فرمائیے !

استثنائی اور حضرت ابو بکر مسلمان ہونے کے زمانے سے لے کر وفات
تک برابر دینی خدمات میں مصروف رہے۔ آپ نے آغاز ہی سے تبلیغ
کا خیال رکھا۔ چنانچہ آپ ہی کی تبلیغ سے عثمان غنی، زبیر عبد الرحمن
بن عوف، طلحہ، سعد بن ابی وقاص وغیرہ دولتِ اسلام سے
ملا ملال ہوئے۔

کنیز فاطمہ، کیا عربوں نے دینِ اسلام کی مخالفت کی ہے
استثنائی۔ مخالفت نہیں سخت مخالفت کی۔ مکہ کے مشرکوں نے

انگ انگ اور کمٹیاں بنا بنا کر رسول مقبولؐ، ان کے اصحاب اور
نومسلموں کو ہر رنگ میں ستایا۔ بنی اُمیہ اور ان کی پاک تعلیم کی
سنسی اڑائی۔ تاکہ عرب ان سے نفرت کریں۔ رسول اور مسلمانوں
کو تکلیفیں دے کر تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ انھیں ڈرایا
دھمکایا۔ نومسلموں کو خوب زد و کوب کیا۔ تاکہ وہ مرتد ہو جائیں اور

دوسرے عرب اسلام نہ قبول کریں۔ ان مشرکوں نے رسول اللہ
پر کاہن، شاعر اور دیوانہ ہونے کے الزام لگائے۔ سعادت اللہ
نگہ بالا آخر خود ہی تردید کی۔ اس کے باوجود وہ رسول کی راہ میں
کانٹے بچھا بچھا کر اور دوسرے طریق سے انھیں ستاتے رہے۔

ایک روز بنی اُمیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی اثناء میں ایک
شخص آیا اور اپنی چادر کورسی کی طرح بیل دے کر آنحضرت کی گردن

میں ڈالی اور اسے زور زور سے اٹھنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ حضورؐ کا
گلا گھٹنے لگا، پیر گزری کہ ایسے تازک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق
وہاں پہنچے اور انھوں نے دشمن کو بڑی مشکل سے دفع کیا۔ لیکن اور
بہت سے مشرک آگئے اور وہ سب کے سب حضرت ابو بکرؓ سے چپٹ گئے
اور ان بے چاروں کو خوب ہی زد و کوب کیا۔

رقیم۔ آف آف! وہ لوگ بھی کیسے سنگدل تھے! یہ
استمائی۔ درندوں سے بدتر! خیر جب رسول اللہؐ سے مسلمانوں
کی تکلیف نہ دیکھی گئی تو آپؐ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ
بارہ مرد اور چار عورتیں رات کی تاریکی میں چھپ کر حبشہ کی طرف
روانہ ہوئیں۔ پھر تراسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں کا قافلہ حبش
کو روانہ ہوا۔ اس کے سردار جعفر طیار۔ آنحضرتؐ کے پیرے بھائی
تھے۔ چونکہ اب مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم ہو گئی۔ اس لیے مشرکین
نے انھیں کم زور دیکھ کر اور بھی زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیئے۔ اس
درمیان میں مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے آنحضرتؐ نے
چند مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اس روانگی کے بعد
آنحضرتؐ کے پاس صرف حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علیؓ اور چند
مسلمان رہ گئے۔ یعنی کوئی زبردست مسلمان مکہ معظمہ میں نہیں رہا
مشرک اس حال سے خردا رہے، تو انھوں نے حضورؐ کو مشہد
کو ڈالنے کا ارادہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ تمام مشہد قبیلوں کے سردار

مل کر رسالت مآب کو شہید کریں تاکہ انتقام نہ لیا جاسکے چنانچہ
مشرک جو انوں نے رات کو حرم نبی کا محاصرہ کر لیا تاکہ جب حضرت
رسول اللہ صبح کو نماز کے واسطے باہر نکلیں تو اس وقت ان پر حملہ
کر کے انھیں شہید کر دیا جاسے۔

صفیہ - تو یہ تو بہ مکہ کے مشرک بھی کس قدر خونخوار دشمن

حق تھے! استہانی - کچھ نہ پوچھو! مگر مشیت ایزدی کچھ اور تھی۔ چنانچہ

آنحضرت کو بھی اس خونی سازش کی خبر ہو گئی۔ اور آپ نے بھی
ہجرت کا ارادہ کیا۔ حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تم میری بجائے میرے
بستر پر سو جاؤ اور خود سورہ یسین کی تلاوت فرماتے ہوئے دشمنوں
کے پاس سے نکل گئے۔ ان میں سے کسی کی بھی نگاہ آنحضرت پر
نہیں پڑی۔ حتیٰ کہ حضور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مکان پر جا پہنچے
یہ واقعہ ۲۷ صفر ۶۲۲ھ بمطابق ۱۲ ستمبر ۶۲۲ء کا ہے۔

حضور نے ہجرت کے واسطے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی سفر کے
واسطے مکر باندھنے لگے۔ رستے میں کھانے کے لیے ستو تھیلیوں

میں بھر لیے۔ اب آج کا منہ باندھنے کو رستی نہیں ملتی تو ابو بکر

صدیقؓ کی کم بین صاحبزادی اسماء اپنا مکر بند پھاڑ کر تھیلیوں کا منہ
بند کرتی ہیں۔ اس پر رسول اللہ انھیں ذات انطالقین کا خطاب

عنایت کرتے ہیں۔ صدیق اور راہ دور اندیشی اپنی تمام نقدی بھی

ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر دو اصحاب اندھیرے اندھیرے
 ہی مکہ کی آبادی سے باہر نکلتے ہیں۔ پانچ میل مسافت طے کرتے
 اور کوہ ثور کی چڑھائی چڑھتے ہیں تو جناب رسالت مآب
 کا پاؤں زخمی ہو جانے سے آگے قدم اٹھانا دشوار ہو جاتا ہے
 یہ دیکھ کر صدیق اکبر رسول اللہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار
 ثور کے وہاں تک لے جاتے ہیں۔ پھر حضرت کو باہر ٹھیرا کر صدیق
 غار کے اندر جا کر اسے خوب صاف کرتے ہیں اور اس کے
 سوراخ اور شکاف وغیرہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کرتے
 ہیں اس کے بعد حضرت کو اندر لاکر آرام سے لٹا دیتے ہیں۔
 کنیز فاطمہ۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے نازک
 موقع پر آفتاب رسالت کی حفاظت اور خدمت کی!
 رفیقہ۔ اتنی ہی بات ان کی فضیلت تسلیم کرانے کے واسطے کافی ہے۔
 عثمانی۔ بے شک! حضرت ابو بکر غار کے اندر آنحضرت کی
 حفاظت سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے۔ ان کی آنکھ ایک
 لحظہ کو بھی نہیں تھکی بلکہ ہمدردی کے آنسو بہاتی رہی۔ غار کا ایک
 سوراخ شاید بند کرنے سے رہ گیا تھا۔ ابو بکر نے یہ دیکھا تو
 اپنا پاؤں اس پر جما دیا۔ ایک سانپ نے سوراخ سے اٹنے
 پاؤں میں ڈس لیا جس کی وجہ سے سخت درد ہوا۔ مگر آپ ضبط
 کیے رہے جنبش تک نہ کی۔ کیونکہ رسول کریم آپ کے زانو پر سر

رکھے سو رہے تھے تاہم شدتِ درد سے آپ کے آنسو جو ٹپکے
تو وہ حضور رسالت مآبؐ کے روئے مبارک پر پڑے جن سے
آن کی آنکھ کھل گئی وجہ معلوم ہوئی تو حضور نے اپنے وہن مبارک
کا لعاب زخم پر لگا دیا جس سے درد جاتا رہا۔ یہ واقعہ حضرت
ابوبکر صدیقؓ کی غیر معمولی وفاداری اور ایثار کے ثبوت میں
پیش کیا جاسکتا ہے جس کی نظیر دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔

اے سید! اے یارِ قار! اے صدیقِ نامور! آپ حقیقت
میں خوبیوں کے مجموعہ اور وفاداری کے مخزن ہیں۔ دوست بیشک
یاروں کی خدمت کرتے ہیں لیکن آپ کی مانند کون دانستہ از دہر
کے سنہ میں پاؤں ڈال دیتا ہے۔ ہاں یہ فضیلت صرف آپ ہی
کو حاصل ہے۔

کنیزِ قاطمہ۔ سبحان اللہ! کیسے بزرگ تھے حضرت ابوبکر صدیقؓ!
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

استمائی۔ رسول اللہ نے غار کے اندر کئی روز قیام فرمایا
اس اثنائے میں مشرک انھیں تلاش کرتے رہے مگر کچھ فائدہ
نہیں ہوا۔ ان دنوں حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی اسماء اندھیریؓ
میں آنحضرتؐ کے واسطے گھر سے کھانا لاتی رہیں اور صدیقؓ کے
فرزند عبد اللہؓ آکر ضروری خبریں بتا جایا کرتے تھے۔ اسی طرح
حضرت ابوبکرؓ کا چرواہا عامر بن نبیرہؓ حضرت عائشہؓ کے بھائی کا

کرتے رہے۔ آپ نے قیام غار میں جو خدمت کی وہ میں تمہیں مفصل
بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ اور
مسلمانوں کی مدد کی نصیحت سے چھڑایا۔ ہر غزوہ میں شریک ہوئے
اور رسول اللہ سے ایک گھڑی کے واسطے بھی جدا نہیں رہے۔
غزوہ بدر میں رسول اللہ کے لشکر کی تلوار لیے گھڑے رہے تاکہ
پشتمنوں کا حملہ بچائیں۔ جب کسی نے گستاخی کا ارادہ کیا صدیق
نے فوراً اسے دفع کیا۔

کثیر فاطمہ حضرت ابو بکر کی خدمات واقعی بے مثل ہیں جہاں اللہ
پرست تھے۔ آخر کار وہ وقت قریب آ گیا کہ حضرت رسول اللہ سفر
آخرت اختیار کریں حضور بستر علالت پر آرام فرمانے لگے۔ وفات
سے تین دن پہلے اس قدر کمزور ہو گئے کہ نماز نہ پڑھا سکے اور
حضرت ابو بکر کو اپنی بجائے امام بنایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز
ادا کی۔ اگلے روز آپ نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اور آخر کار ۱۳
ربیع الاول ۱۱ھ کو حضور اقدس نے رحلت فرمائی۔ اس وقت
حضرت ابو بکر حاضر نہ تھے بلکہ ایک ضروری کام سے اپنے گھر گئے
ہوئے تھے۔ اس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو فوراً تشریف لائے اور
مسلمانوں کو سخت بے چین پایا۔ وہ لوگ اس خیال میں تھے کہ رسول اللہ
ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے! حضرت عمرؓ کا بھی یہی خیال تھا۔ پس
حضرت ابو بکر نے یہ رنگ دیکھ کر ایک مختصر مگر معنی خیز تقریر کی۔

فرمایا کہ ا۔

”محمدؐ کی عبادت کرنے والے سمجھ لیں کہ آپ نے بحکم
خداے تعالیٰ وفات پائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں
کو معلوم رہے کہ وہ حئی و قیوم ہے اور ابد الابد تک
زندہ رہے گا۔“

اس کے بعد صدیق نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ
”محمدؐ خدا کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی خدا کے
بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر یہ وفات پا جائیں
یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟“
مسلمان بے حسرت کہ وفات رسول کے قائل ہو گئے۔ اور تجہیز و تکفین کا سامان
کرنے لگے۔ عین اس وقت اطلاع ملی کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں
جمع ہو کر اپنے میں سے ایک شخص کو رسول اللہ کا جانشین یعنی خلیفہ
بنانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ یہ خبر سن کر اُدھر گئے۔
معلوم ہوا کہ سعد بن عبادہؓ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر ہاجرین نے
انہیں روکا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت صدیقؓ نے
ایک تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انصار کی فضیلت میں کلام نہیں
مگر خیال رہے کہ ہاجرین میں بڑی تعداد قریش کی ہے۔ جو دنیاوی
ثروت اپنے حسب و نسب نیز قرابت رسول اللہ کی وجہ سے افضل
والعی ہیں اسی لئے میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یا تو

حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیجئے یا ابو عبیدہ کو۔ یہ سن کر ایک انصاری
 بولے کیوں نہ ایک انصاری اور ایک ہماجر دو آدمی انتخاب کیئے
 جائیں بہ بات بڑھنے لگی تو حضرت عمر نے جلد فیصلہ ہو جانے کی غرض
 سے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ۔ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے میں بیعت
 کرتا ہوں۔ چنانچہ انھوں نے فوراً بیعت کر لی۔ بشیر بن سعد انصاری
 نے ان کی تقلید کی اور اس کے بعد تمام اصحاب نے حضرت صدیق
 کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو کچھ
 فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے بیعت
 خلافت کرتے ہوئے خوب بات کہی۔

کنیز فاطمہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟
 استانی۔ فرمایا کہ۔

جب رسول اللہ نے حضرت صدیق کو امامت کا حکم دیا تھا
 تو میں غیر حاضر نہ تھا اور نہ بیمار بلکہ موجود تھا اس لیے ہم پر
 فرض ہے کہ جسے حضور صلعم نے ہمارے دین کے لئے پسند کیا
 ہم اسے دنیا کے واسطے بھی پسند کریں۔

الغرض اس طرح نا اتفاقی اور اختلاف بلکہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا اور
 ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے اٹھتے رہ گیا۔ پس حضرت صدیق نے اس وقت
 اسلام کی نہایت عظیم الشان خدمت انجام دی۔
 سکینہ۔ انصار اور ہماجر سے کیا مراد ہے؟

استثانی۔ جو مسلمان مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے۔
وہ ہاجرین کہلائے اور مدینہ کے جن مسلمانوں نے ہاجرین اور رسول اللہ
کی مدد کی وہ انصار کہلائے۔

سکینہ۔ خوب!

استثانی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے خلیفہ
ہونے کے بعد کیا کیا خدمت کی۔

کنیز فاطمہ۔ فرمائیے!

استثانی۔ آپ کے اہم کارنامے۔ مرتدین کا کامیاب مقابلہ
اور عراق و شام کی فتوحات ہیں جن کی تفصیل میں تمہیں سنائی ہوں
رقیہ۔ ارشاد کیجئے!

استثانی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انتقال فرماتے ہی عرب
میں ایک فتنہ اٹھا۔ تمام قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔
اور کئی لوگ جھوٹ موٹ نبوت کا دعوے کر بیٹھے۔ چنانچہ سیدہ الکذاب
اور لاسدی (معاذ اللہ) نبی بن بیٹھے۔ بہت سے قبیلوں نے
زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ اسے خراج سمجھ کر اس کی
ادائیگی اپنی ہتک سمجھتے تھے۔

خلیفہ اولؓ کو ایک اور مرحلہ درپیش آیا حضور رسول اللہ
نے وفات سے کچھ پہلے مجاہدین کا ایک لشکر شام کی طرف بھیجنے کے
واسطے مرتب کیا تھا اور اس کے سردار نوحوان اسامہ بن زیدؓ تھے۔

ہوئے تھے بشکر حضور کی علالت اور پھر وفات کی وجہ سے نہ روانہ ہو سکا۔ مگر حضرت صدیق نے خلیفہ ہوتے ہی ارادہ نبوی کو پورا کرنا چاہا۔ مگر قبائل کے ارتداد کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ تاہم خلیفہ مستقل رہے اور فرمایا کہ ارادہ نبوی کی تکمیل میرا فرض ہے۔ لشکر کی روانگی کا فیصلہ ہو گیا تو بعض صحابہؓ نے حضرت اسامہ کی سرداری پر اعتراض کر کے مطالبہ کیا کہ بن رسیدہ سردار دیا جائے۔ مگر حضرت صدیق کی حکمت عملی نے یہ مرحلہ بھی نہایت خوش اسلوبی سے طے کر دیا۔

کینز فاطمہ۔ کس طرح آپ نے اس موقع پر کیا کیا بہ ذرا فرمائیے تو بہ!

استانی خلیفہ لشکر کی روانگی کے وقت موقع پر تشریف لے گئے تو اسامہ سے دور تک بائیں کرتے چلے گئے۔ اسامہ سوار تھے اور خلیفہؓ پیدل۔ نوجوان سپہ سالار نے اصرار کے ساتھ خود پیدل چلنے کی اجازت مانگی۔ مگر آپ نے انھیں اس سے باز رکھا اور فرمایا کہ مجھے بھی راہ خدا میں اپنے قیم گروہ کو وہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے دو! یہ دیکھ کر سب و نسب پر فخر کرنے والے انصار کے خیالات بھی درست ہو گئے اور انھوں نے اس کے بعد اسامہ کی سپہ سالاری پر اعتراض نہیں کیا اور اس طرح آپ کی دانشمندی نے ایک مشکل حل کر دی۔

حضرت صدیق اکبر نے مجاہدین کی روانگی کے وقت جو ہدایات

سچے سالار اور فوج کو فرمائیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔
 "خیانیت اور فریب سے کام نہ لینا۔ زیادتی نہ کرنا۔ ناک
 کسی کی نہ کاٹنا۔ لڑکوں۔ عورتوں اور بوڑھوں کو ہرگز قتل
 نہ کرنا۔ کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑنا۔ نہ کہیں آگ لگانا
 عبادت گاہوں اور عبادت گزاروں سے کچھ نہ کہنا
 جانور بے ضرورت ہلاک نہ کرنا اور سنت رسول اللہ کی
 پیروی اپنا فرض سمجھنا"

آج بہت سی قومیں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ خونریزی کے خلاف اور
 انسانی حقوق کی محافظ ہیں۔ لیکن ان کی تاریخ ماضی و حال صدیقی
 روایات سے خالی ہیں۔ بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مشائستہ یورپین قومیں
 آج بھی غیر مسلح آبادی پر ہتھیار چلاتیں۔ ہوائی جہازوں سے بم گراتیں
 اور بچوں۔ عورتوں اور بوڑھوں کا بھی خیال نہیں کرتیں۔
 رقیہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دعوے ایسے ایسے اور عمل خاک نہیں
 کنیز قاطمہ۔ بڑے دعووں سے ہوتا کیا ہے۔ دنیا کو دھوکا نہیں
 دیا جاسکتا۔

سکینہ۔ ہاں تو استانی جی! شام کو لشکر بھیجنے کا نتیجہ کیا نکلا؟
 استانی۔ مجاہدین فتوحات حاصل کر کے چالیس روز بعد
 واپس آئے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ستر روز بعد آئے۔ بہر حال
 وہ کامیاب واپس ہوئے۔ چنانچہ کثیر مال غنیمت ساتھ لائے۔

صفدرہ۔ استانی جی! آپ نے فرمایا تھا کہ عربی قبیلے مرتد ہو گئے تھے
تو کیا انھوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا؟

استانی نہیں انھوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اس
لیے مرتد سمجھے گئے اور اس لفظ کے صحیح معنی یہی ہیں۔

کنیز فاطمہ یگر آج کل بہت سے امیر مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے
تو کیا وہ بھی مرتد ہیں؟ استانی جی!

استانی زیہ تو بالکل صاف بات ہے۔ قرآن۔ حدیث اور خلیفہ
اول کا فیصلہ ناطق ہے! خدا نے تعالیٰ ہندوستانی مسلمان امیروں
کو نیک تو فیق دے کہ وہ اپنا بھولا ہوا فرض ادا کریں!

سب لڑکیاں۔ آمین!

رقیبہ۔ اچھا تو مرتدوں کا کیا حشر ہوا؟

استانی۔ حضرت صدیق اکبر نے مرتدوں کو راہ راست پر لانے

کے واسطے بہت بڑی فوج جمع کی۔ چنانچہ اسے گیارہ حصوں میں تقسیم
کیا اور گیارہ سردار مختلف اطراف کو مرتدین کے مقابلہ میں بھیجے۔

اس وقت بعض مسلمان کہتے تھے کہ زکوٰۃ پر زیادہ زور نہ دیا جائے!
مگر خلیفہ نے فرمایا۔ یہ ضروری فرض ہے۔ الغرض مرتدوں سے جنگ

شروع ہوئی۔ بہت سے مسلمان اور مرتدین میدان میں کام آئے

لیکن مسلمان ہر جگہ کامیاب ہوئے اور ان کے دشمن مغلوب حتیٰ کہ

بھوٹے بنی بھی مارے گئے۔ اور باقی مرتدوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا

اقرار کیا اور یہ ایک بڑا کام تھا جو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں پورا ہوا
سب لڑکیاں۔ بے شک! بے شک! خدائے تعالیٰ انھیں
جزائے خیر دے!

استمائی۔ جب اس فتنہ کا دروازہ بند ہو گیا تو ثنی بن حارث
نے خلیفہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی
قوم کا لشکر لے کر عراق پر حملہ کروں۔ مگر خلیفہ نے اس قدر کافی
نہ سمجھ کر بڑا لشکر جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور سر لشکر مشہور سپہ سالار خالد
ابن ولید کو بنایا۔ یہ لشکر روانہ ہوا تو اس نے پہلے ایلہ فتح کیا اور
پھر خرمیہ پر جا پڑا۔ جہاں سے بے شمار اسلحہ ہاتھ آئے جو شاہ ایران
کسرے نے یہاں کے چند مکانوں میں عربوں کو مرعوب کرنے کے
واسطے چھپا دیئے تھے۔ اب مجاہدین دریائے فرات کے کنارے
کنارے یلغار کرتے ہوئے آلیس تک جا پہنچے۔ مگر وہاں کے
رہنسیوں نے مال دے کر صلح اور دوستی کر لی۔ اب لشکر حیرہ جا پہنچا
اور وہاں کے سرداروں نے بھی رقم کثیر دے کر صلح کر لی۔ اس کے
بعد مجاہدین بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست معرکہ ہوا مگر فتح
مجاہدین اسلام ہی کو ہوئی اور اس طرح تمام عراق عرب مسلمانوں
کے ماتحت ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ پہلی فتح تھی جو مسلمانوں نے عرب سے
باہر حاصل کی اور اس کا سہرا خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔

کنیز قاطمہ۔ بے شک! خدائے تعالیٰ صدیق اکبر کو جزائے خیر دے!

استانی۔ اس وقت خلیفہ کی توجہ ایک آیت شریفہ پر مبذول ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ۔

”جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے خدا

ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انھیں زمین پر بادشاہ بنا دیگا“

خلیفہ نے خیال کیا کہ شام میں تبلیغ کا بھی اچھا میدان ہے اس وقت

وہاں عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی مگر بد انتظامی۔ فساد پھیلے ہوئے

اور رعایا پر ظلم ہو رہے تھے۔ اس لئے خلیفہ نے ادھر مجاہدین کا لشکر

بھیجا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آپ نے صفر ۳۱ھ میں عمرو بن العاصؓ

کو کافی فوج دے کر فلسطین روانہ کیا۔ پھر دوسرا علم شریح کو

عنایت کیا اور ان کی فوج نے اردن کی طرف کوچ کیا۔ اسی طرح

دمشق اور حمص کو بھی فوجیں بھیجی گئیں۔ ہر طرف تین تین ہزار مجاہدین

روانہ ہوئے لیکن دانشمند خلیفہ نے اسی تعداد کی فوجیں ہر جگہ

مدد اور کمک کے واسطے بھی بھیجیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غوثی ہی بدست

میں اجڑاؤ۔ آرمینیا اور ایشیا کے کوچک اسلامی جھنڈے کے

پہنچے آگئے۔ روم کے دار الخلافہ کے قریب ہرقل کی ڈیڑھ لاکھ فوج

سے مقابلہ ہوا۔ خلیفہ نے یہ معلوم کر کے خالد ابن ولید کو عراق سے

ادھر بھیجا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ آخر تمام فوج نے اپنا

سہ سالہ حضرت خالد ہی کو بتالیا اور معرکہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ یہ موک

میں نہایت زبردست مقابلہ ہوا۔ مسلمان نہایت ولیری اور جانبازی

سے لڑے۔ ان میں سے تین ہزار شہید یا مجروح ہوئے۔ تاہم دشمن کو شکست فاش دی اور شام میں مسلمانوں کی زبردست حکومت قائم ہو گئی۔ عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہاں کی رعایا مسلمانوں سے بہت خوش ہوئی۔

یاد رہے کہ اس جنگ میں مسلم خاتونوں نے بھی حصہ لیا جو زخمی چاہدین کی تیمارداری کرتی تھیں۔ ایک بار جب حملہ کے زور سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ بھاگنے والے ہیں تو یہ دیکھ کر ان عورتوں نے خمیوں کی چوبیس اکھاڑ اکھاڑ کر ان کے مارنی شروع کیں اور انھیں جوش دلا کر مارنے پر آمادہ کر دیا۔ ان میں سے بعض نے تو اپنے جوان فرزندوں کی شہادت کی پروا نہ کر کے ان کی بجائے اپنے شوہروں کو بھینچا دیکھو اس زمانہ کی عورتیں جس قدر بہادری تھیں آج کل کے مسلم مرد بھی اس قدر دلیر نہیں خصوصاً ہندوستان کے مسلمان!

کنیز فاطمہ۔ اللہ اللہ وہ کیسا مبارک زمانہ تھا۔
استماتی۔ پچھلے دنوں نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کس طرح عرب کی بغاوت فرو کی اور پھر عراق اور شام فتح کئے اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کی نشان و شوکت بڑھائی۔

رقیبہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ!
استماتی۔ یسین جمع قرآن کی خدمت بھی بہت بڑی خدمت تھی جو

حضرت صدیق اکبر نے انجام دی۔ ابتدا میں قرآن شریف لوگوں کو
 زبانی یاد تھا۔ مگر جنگ یتامہ میں بہت سے حافظ اور قاری شہید
 ہو گئے۔ تو حضرت عمرؓ نے خلیفہ سے فرمایا کہ قرآن جمع و مرتب
 کر کے تحریر کرایا جائے۔ اول صدیق اکبر کو اس میں مائل ہوا۔ اور
 آپ نے فرمایا کہ جو کام نبیؐ اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟
 لیکن آخر کار آمادہ ہو گئے اور بڑی تحقیق و تلاش سے قرآن کریم
 مرتب کرایا اور پھر کتابی صورت میں تحریر کرایا۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کام رسولؐ پاک کی حیات
 مقدس میں ہی ہو چکا تھا۔ یہ تحریری قرآن شریف اول خلیفہؓ
 کے پاس رہا۔ پھر خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے پاس اور اس کے بعد حفصہ
 بنت عمرؓ کے پاس۔ پھر اسی کی نقلیں ہو کر دنیا میں پھیلیں۔
 کنیر فاطمہ۔ جمع قرآن کا کام واقعی بہت بڑا کام تھا اور نہایت
 ضروری۔

استثانی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اکبر خلیفہ اول میں بے شمار خوبیاں
 تھیں اور انھوں نے اسلام۔ رسولؐ اللہ اور مسلمانوں کی بنیاد پر
 خدمات انجام دیں جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا۔ ان کا اخلاق
 نہایت اعلیٰ اور وسیع تھا۔ وہ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے ان کی
 ریلیں اور حجرتیں نہایت قوی ہوتی تھیں۔ ان کے خطبوں میں جا بجا
 قرآن کریم اور حدیث کے حوالے ہوا کرتے تھے اور اہل عرب کے

نزدیک خطبہ کی سب سے بڑی شان یہی ہے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ وہ رسول مقبول کے پہلے جانشین اور خلیفہ تھے۔ جمع قرآن کے علاوہ بیت المال بھی انہوں ہی نے قائم کیا۔ جس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربوں سے خراج حاصل کیا۔ وہ اول درجہ کے سخی تھے۔ چنانچہ انہوں نے ۳۵ ہزار درہم مسلمانوں پر خرچ کیے۔ بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی اور نیک کاموں میں سب سے آگے رہے۔

رقیبہ۔ سبحان اللہ! خلیفہ اول کی خوبیاں واقعی شمار سے زیادہ ہیں۔ جزاک اللہ۔

استثانی۔ اس کے سوا وہ حق پسندی کے شیدائے تھے۔ جب عرب قبائل مرتد ہوئے تو بعض مسلمانوں کی رائے اٹھی کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ کیونکہ وقت نازک تھا۔ دشمن چاروں طرف سے سراٹھارہے تھے۔ پس خلیفہ کو مشورہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو فی الحال نہ چھیڑو۔ لیکن اس بہادر خلیفہ نے کامل استقلال دکھایا۔ فرمایا کہ اگر مجھے دنیا بھی چھوڑ دے تو میں مرتدوں سے اس وقت تک جنگ کرنا جاؤں گا جب تک وہ زکوٰۃ نہ ادا کریں! اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا جس کا مبارک نتیجہ نکلا۔ سرکشی کا خاتمہ ہو گیا۔ دشمن ڈر گئے ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا۔ وقت نازک اور خطرہ درپیش تھا۔ بہر حال حضرت ابو بکر کی اولوالعزمی۔ استقامت اور دوراندیشی نے

مسلمانوں کو آنے والی مصیبت سے بچالیا اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔

کنیز فاطمہ - بے شک بہت بڑا احسان ہے۔

استغاثی - خلیفہ اول مقدموں کا فیصلہ جس طرح کیا کرتے تھے

وہ بھی قابل تعریف ہے۔ آپ پہلے قرآن کریم سے رجوع کرتے

اور اگر وہاں صاف حکم نہ ملتا تو پھر معلوم کرتے کہ رسول اللہ

نے ایسے معاملہ کا کیا فیصلہ کیا تھا۔ اور آپ بھی سنت کی پیروی

فرماتے۔ لیکن اگر حدیثوں سے مطلب نہ نکلتا تو پھر مسلمانوں سے

پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی کو یا دہر تو بتاؤ کہ جناب رسالت پناہ

نے ایسے مقدمہ کا فیصلہ کیا کیا تھا اور اگر کوئی بتاتا تو اسے شکر یہ

کے ساتھ قبول و اختیار کر لیتے۔ ورنہ مسلمانوں کی کثرت رائے سے

فیصلہ کرتے۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق نے کبھی کوئی

فیصلہ صرف اپنی رائے سے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے

دل میں خدا کا خوف تھا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی

چاہتے تھے۔

صفحہ - واقعی

استغاثی - وہ صحیح معنوں میں عابد و زاہد تھے۔ وہ قانع و صابر

اور غیور تھے اور حرص و طمع کے دشمن۔ وہ کسب حلال یعنی تجارت

سے روزی حاصل کرتے تھے۔ اس کی آمدنی سے انھوں نے اپنا

اور اپنے خاندان کا بھی گزارہ کیا اور مسلمانوں کی بھی مدد کی۔ بس وہ اسی قسم کے عابد و زاہد تھے۔ پھر جب وہ خلیفہ ہوئے اور ان کا تمام وقت اس میں صرف ہوا اور آپ تجارت وغیرہ نہ کر سکے تو آپ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا۔ مگر بہت تھوڑی رقم یعنی اس قدر کہ جس میں ایک معمولی ہاجر گزارہ کر سکے یعنی صرف سو روپیہ روز۔

رقیم۔ خوب!

استثانی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سات غلام خرید کر آزاد کیے یہ وہ لوگ تھے جن پر مکہ کے مشرک بے حد ظلم و ستم کرتے تھے۔ رسول اللہ کے مؤذن بلال۔ عامر بن نبیرہ۔ ابونافع۔ مرہ بن ابی عثمان سلیمان بن بلال بربری کو خلیفہ اول ہی نے آزاد کرایا۔ علاوہ ازیں صفیہ اور ام عینس کینزکوں کو بھی آزاد دی بخشی!

کینز قاطمہ۔ واہ کیسے نیک بندے تھے۔

استثانی۔ حضرت ابو بکر اپنے والد کی زندگی ہی میں خلیفہ ہوئے اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ ہی نے قرآن کریم کو خطاب مصحف دیا۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ آپ وجیہ و خوبصورت تھے آپ کا جسم اکہرا اور رنگ گورا تھا۔ رخسار ہلکے۔ چہرہ شگفتہ۔ پیشانی بلند۔ آنکھیں ذرا اندر دھنسی ہوئیں۔ سر کا اگلا حصہ بالوں سے خالی تھا۔ آپ ہمدی یا کسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

آپ کبھی کسی کے ساتھ ترشروی اور کج خلقی سے پیش نہیں آئے اور
 آپ سے زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی بدی نہیں ہوئی۔ آپ جب
 پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئیں اور کہا کہ الہی
 یہ بچہ موت سے عقیق یعنی آزاد ہے۔ آپ کے لقب عقیق کی ایک جہ
 یہ بھی بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ نے ایک بار فرمایا کہ ابو بکر آتش و زنج
 سے آزاد ہیں۔ اس کے بعد ان کا لقب عقیق پڑ گیا۔ عقیق کے معنی
 خوبصورت کے بھی ہیں۔

رقیم۔ ایسے ہی بندے جنتی ہوتے ہیں۔

استثانی۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ کو لوگ ایام جہالت
 میں بھی صدیق کہتے تھے۔ کیونکہ آپ نہایت راست بار تھے۔ مگر یہ
 لقب معراج کے بعد زیادہ مشہور ہوا جب آپ نے اس کا یقین اور
 تصدیق کی اور مشرکین کو ڈانٹ بتائی جو رسول اللہ کی سنسی
 اڑاتے تھے (معاذ اللہ)

صدقیم۔ واہ ان کی بات ایمانی کتنی زبردست تھی۔

استثانی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر
 کا کچھ حال بیان کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ۔

ابو بکر وہ شخص ہیں کہ خدا نے ان کا نام صدیق

رکھا۔ جبڑیل اور رسول خدا کی زبان مبارک سے صدیق

کہلو آیا۔ وہ نمازوں میں نبی اللہ کے خلیفہ بنے اور رسول اللہ

جس شخص کے لیے دینی معاملے میں راضی ہوئے۔ ہم ان سے
دنیا کے لیے بھی رضامند ہو گئے۔

کنیز فاطمہ۔ کتنا صحیح اصول اور قاعدہ ہے!

استمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی ولادت سے دو سال
دو ماہ بعد دنیا میں آئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ خلیفہ اول
کی عمر آنحضرت سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ اپنی قوم میں مال دار۔ صاحب
مردت و احسان تھے۔ عزیزوں کی مدد۔ گم شدہ کی تلاش۔ بہانوں
کی تواضع اور سختی برداشت کرتے تھے۔ وہ ایام جاہلیت میں قریشی
رہیں تھے اور قریش کے معاملات سے بخوبی واقف تھے۔ قوم ان سے
مشورہ لیا کرتی اور انھیں عزیز رکھتی تھی۔ مگر وہ اسلام لانے کے بعد
صرف اسلام کے ہو رہے اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ قوم بھی ان کی دشمن
ہو گئی۔ مگر خدا راضی ہوا۔

صفدرہ۔ کیسی زبردست قریانی ہے!

استمائی۔ آپ ان گیارہ اشخاص میں سے ایک تھے جن کو زمانہ
جاہلیت اور اسلام میں بھی شرف حاصل رہا۔

... وہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے پارسا تھے۔ آپ نے
اس زمانہ میں بھی شعر نہیں کہا۔ شراب نہیں پی۔ ایک صحابی نے اسکی
درجہ آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بدن سے
بدبو آئے اور عورت چاتی رہے۔ شراب پینے سے بدبو آنے لگتی اور عورت

کا مادہ جاتا رہتا ہے! جب اس بات کا ذکر حضرت رسول کریم کے سامنے ہوا تو آپ نے دو بار فرمایا کہ صدیق صحیح کہتے ہیں۔ آپ ہی نے سب سے پہلے آنحضرت کے ساتھ نماز پڑھی۔

رقیبہ - آپ کیسے مذاق سلیم کے مالک تھے۔
 استمائی - ایک بار حضرت سعد کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت ابو بکر کا اسلام، ہم سب سے اچھا تھا۔ اسلام لانے کے متعلق خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیان تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ صدیق فرماتے ہیں کہ:-

میں ایک دن بیت اللہ کے قریب بیٹھا تھا کہ امیہ بن ابی اصدت اُدھر آئے اور مزاج بدی کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ نبی موعود ہم میں سے ہوں گے یا تم میں سے؟ مگر مجھے آنے والے نبی کا حال معلوم نہ تھا۔ اس لئے میں اسی وقت ورقہ بن نوفل کے پاس گیا۔

ورقہ اکثر آسمان کی طرف نگاہ کرتا اور اس کے سینے میں سے خاص قسم کی آواز نکلا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ورقہ سے امیہ کی بات کا ذکر کیا تو اس نے جواب دیا کہ آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی موعود وسطا خاندان عرب میں ہوں گے پس وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ پھر اس نے صدیق کے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ نبی کہیں گے کہ تم اپنی قوم کو اور نہ غیروں پر اور نہ مظلوم ہی بناؤ ابو بکر فرماتے

ہیں کہ میں یہ سن کر واپس چلا آیا اور جب رسول اللہ نے اسلام پیش کیا تو میں فوراً ایمان لے آیا۔

ایک بار رسول کریم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میرے دوست ابو بکر کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ حالانکہ وہ تو اس پائے کے انسان ہیں کہ جب میں نے کہا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تمام انسانوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے تو تم سب نے مجھے جھٹلایا۔ مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی۔

سکینہ - سبحان اللہ۔

استثانی - معتبر حدیثوں میں آیا ہے کہ ابو بکر ہمیشہ سفر اور حضر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ صرف نبی اللہ کی اجازت سے حج یا غزوہ کے واسطے حضور سے جدا ہوئے۔ یہاں تک کہ اپنے بال بچے چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کی۔ جنگ احد میں اور لوگ رسول خدا کو چھوڑ گئے مگر صدیق وہیں موجود رہے۔ جنگ بدر میں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن مشرکوں کی طرف ہو کر مسلمانوں سے لڑے۔ جب عبد الرحمن اسلام لائے تو باپ سے بولے کہ بدر کے دن آپ کئی بار میرے تیر کی زد میں آئے۔ مگر میں نے اپنا دہنا ہاتھ روک لیا۔ اس کے جواب میں صدیق نے فرمایا کہ اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تمہیں قتل کیے بغیر نہ رہتا! دیکھو ان کا ایمان کتنا زبردست تھا اور دین کے معاملہ میں اپنے حقیقی فرزند کی بھی پروا نہیں کرتے تھے۔

کنیز فاطمہ۔ گویا ان حسابوں ہم مسلمان ہی نہیں! استثنائی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک زیادہ شجاع کون ہے؟ اس پر سب نے جواب دیا کہ آپ! پھر خدا نے فرمایا کہ نہیں ہیں تو برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں اور یہ کوئی بہادری نہیں۔ آپ شجاع ترین شخص کا نام لیں۔ جب سب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جب یوم بدر میں ہم نے نبی اللہ کے واسطے سائبان بنایا اور پوچھا کہ حضور کی حفاظت مشرکین کے حملہ سے کون کرے گا؟ تو خدا کی قسم ہم سب خاموش رہ گئے۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر لشکر تلوار سے کرکھڑے ہو گئے اور کسی دشمن کو قریب نہ آنے دیا اور جس نے حملہ کیا اسے دفع کر کے دم لیا۔

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مشرکوں نے آنحضرت کو پکڑ لیا۔ کم بخت گھسیٹنے لگے اور بولے کہ ”تو ہی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے؟“ اس وقت کفار کے مقابلہ کے لیے کسی کو آگے بڑھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ مگر حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور دشمنوں کو مار بھجگایا اور فرمانے لگے کہ حیف ہے کہ تم ایک ایسے بزرگ انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے؟ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔

صفحہ۔ یہ خدا کے کیسے کیسے بندے ہوئے ہیں!

استثنائی۔ پھر شیر خدا نے فرمایا کہ اچھا مومنین آل فرعون کا درجہ افضل ہے یا ابو بکر کا؟ لیکن جب لوگوں سے جواب نہ بن آیا تو خود فرمایا کہ خدا کی قسم! ابو بکر کی ایک گھڑی کی عبادت ان کی ہزار گھڑیوں کی عبادت سے اچھی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپا کر رکھے اور ابو بکر نے ظاہر کیا!

حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد اڑھیس ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کا اعلان فرمائیے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ مگر ابو بکر صدیق کے اصرار پر نبی اللہ نے اظہار کر دیا اب مسلمان مسجد میں اوجھڑا دھر پھیل گئے۔ حضرت ابو بکر نے گھر سے ہو کر پر جوش خطبہ پڑھا اور اسلام کی طرف بلایا۔ اور دشمن یہ دیکھ کر ڈوٹ پڑے۔

کنیز فاطمہ۔ حضرت صدیق نے اسلام کی مالی خدمت بھی تو بڑی کی ہوگی!

استثنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ سخی تھے چنانچہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے جس قدر فائدہ ابو بکر کے مال سے پہنچا اس قدر اور کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ اس پر صدیق نے رو کر فرمایا۔ حضور! میرا مال کیا چیز ہے؟ یہ سب کچھ آپ ہی کا طفیل ہے۔ معتبر حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسول کریم۔ حضرت

صدیق کے مال میں ویسا ہی تصرف کرتے تھے جیسا اپنے مال میں حضرت
ابو بکر نے بیس ہزار درہم اشاعت اسلام پر خرچ کئے۔

حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ نے ہمیں
کچھ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے ابو بکر سے بڑھ جانے کی
کوشش کی اور اپنا نصف مال حضرت کی خدمت میں پیش کیا
آنحضرت نے پوچھا کہ اپنے بال بچوں کے واسطے کیا چھوڑا ہے
عمر نے کہا کہ کھل کا آدھا۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے تو اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول
مقبولؐ نے ان سے بھی وہی سوال کیا تو وہ جو اب میں بولے کہ
اہل و عیال کے واسطے خدا اور رسول کا فیہ ہے یہ سن کر حضرت
عمرؓ بولے کہ میں حضرت ابو بکر سے کسی بات میں نہیں بڑھ سکوں گا۔
کینر فاطمہ۔ واہ ان کا ایمان کس قدر زبردست تھا انھوں نے
اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

استغاثی۔ بے شک، اور سنو! حضرت ابو بکر ایک بار کچھ مال
رسول خدا کی خدمت میں لائے اور اس کی مالیت چھپا کر فرمایا کہ بس
اب مجھے خدا نے تعالیٰ ہی کا سہارا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ
صدقہ لائے تو انھوں نے اس کی مالیت ظاہر کر کے کہا کہ اب خدا
اور رسول ہی کا سہارا ہے۔ اس پر حضور رسالتؐ نے فرمایا کہ۔
”تم دونوں میں اسی قدر فرق ہے جس قدر تمھارے الفاظ میں“

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ ا۔
 ”میں ابو بکر کے سوا اور سب کا بار احسان اتا چکا ہوں۔ ان کے
 احسان کا عوض خدا سے تعالیٰ بروز قیامت دے گا۔“

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور رسالت مآب نے فرمایا کہ ا۔
 ”ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی کے احسان نہیں۔ انھوں نے اپنی جان
 سے میری غم خواری کی۔ اپنے مال سے بھی مدد کی اور پھر میرا عقد
 اپنی بیٹی سے کیا۔“

رقیبہ۔ سبحان اللہ!

استثانی۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے زیادہ صاحب علم
 اور ذہین و دور اندیش تھے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب بعد
 وفات رسول کریم زکوٰۃ دینے سے انکار ہوا تو حضرت ابو بکر نے
 صاف الفاظ میں فرمایا کہ ا۔

”نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والا گردن زدنی ہے! پس اگر
 رسول خدا کے زمانے سے زکوٰۃ ذرا بھی کم ہوئی تو میں پیام سے
 تلوار نکال لوں گا۔“

اگر صحابہ کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تو حضرت ابو بکر
 اس کا فیصلہ فرما دیتے اور اس سے تمام صحابہ مطمئن ہو جاتے تھے۔
 کنیز قاطمہ۔ نیک بیٹی اور راست بازی سب مشکل حل کر دیتی ہے۔
 استثانی۔ رسول اللہ نے ایک بار خطبہ میں فرمایا کہ ا۔

خداے تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ خواہ دنیا میں رہے یا عقبی اختیار کرے مگر اس بندے نے عاقبت پسند کی یہ سن کر حضرت ابو بکر و پڑے اور فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ اپنی وفات کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ مگر اور کوئی صحابی یہ رمز نہیں سمجھے اس لئے ابو بکر کے رونے پر حیران رہے۔ اس واقعہ سے بھی حضرت صدیق کے علم و ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔

صفیہ - بے شک!

استثانی - ایک بار رسول خدا نے فرمایا کہ۔

ابو بکر کی صحبت مجھے زیادہ خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو اس بات کے مستحق سب سے زیادہ ابو بکر تھے۔

تمام ان کی اسلامی اخوت و محبت اور خلاص دنیا میں ہمیشہ باقی رہیں گے؛ حضرت ابو بکر کو علم قرآن بھی تمام صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہی توجہ تھی کہ رسول مقبول نے انھیں کو نماز میں امام بنایا اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں۔ اس میں کوئی دوسرا شخص امامت کے لائق نہیں۔ کیونکہ امام وہی ہو سکتا ہے جسے کتاب اللہ کا زیادہ علم ہو۔ حضرت ابو بکر کا علم سنت میں بھی کامل تھا اس واسطے تمام صحابہ آپ ہی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت صدیق

کی قوت حافظہ نہایت زیادہ تھی۔ علاوہ ازیں وہ ذہین و ذکی بھی اول درجہ کے تھے۔ پھر آپ کو رسول مقبول کا فیض صحبت اول سے آخر تک حاصل رہا۔ اس کے باوجود آپ نے حدیثیں بہت کم روایت کی ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ آپ رسول خدا کے بعد زیادہ مدت زندہ نہیں رہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی زندگی میں حضرت عمرؓ کا یہ معمول رہا کہ اگر انھیں کسی مسئلہ کا حل کتاب اللہ میں نہ ملتا تو حضرت ابو بکرؓ کے اجتہاد پر فیصلہ کرتے ورنہ صحابہؓ کی کثرت رائے پر اعتماد کرتے۔ یہ اصول بالکل صحیح ہے۔

استثنائی۔ حضرت ابو بکرؓ علم نسب کے بھی بڑے عالم تھے۔ یہاں تک کہ عرب کا مشہور نسب اب جیبہ بن معظم بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ آپ علم تعبیر خواب کے بھی ماہر تھے اور تمام صحابہ سے زیادہ فصیح تھے اور اگر آپ کی مثل کوئی فصیح تھا تو وہ حضرت علیؓ تھے۔ آپ کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ آپ کی عقل کامل اور راکر صائب تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے جبریلؑ کے ذریعہ رسول خدا کو حکم بھیجا کہ آپ ابو بکرؓ سے صلاح و مشورہ کیجئے! حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل تھے۔

محمد بن علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میرے والد ماجد نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکرؓ ہی سب سے افضل ہیں۔ علاوہ ازیں شیخ خدا نے بارہ حضرت صدیقؓ کی فضیلت

کا اعلان کیا اور فرمایا کہ - جو شخص مجھ کو ابو بکر یا عمرؓ پر فضیلت دے گا
میں اس کے درے لگو اوں گا۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے مہاجر پر فرمایا کہ ابو بکر ہم سب میں افضل ہیں
اور اس میں اختلاف کرنے والا مفتری اور سزا کا مستحق! خود رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ - ابو بکر تم سب میں
افضل ہیں۔

کنیز فاطمہ - پھر ان کی فضیلت میں کیا شک باقی رہا۔ اس میں شک
کرنے والا بے شک مفتری اور سزا کا سزاوار ہے۔
استغاثی - بے شک!

ایک بار عمرو بن العاص نے رسول مقبول سے سوال کیا کہ آپ کو
انسانوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ حضرت نے فرمایا عائشہؓ
پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ ارشاد ہوا کہ ان کے باپ یعنی حضرت ابو بکرؓ!
عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ایک بار رسول مقبول نے فرمایا
کہ جو شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ پر کسی اور کو فضیلت دے گا وہ
مہاجرین و انصار پر ظلم کرے گا!

ایک بار عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رسول اللہ کی خدمت
میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی شان میں کچھ کہا
ہو تو سنناؤ حسان نے چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر یارِ ناصی
رسول اللہ ہیں اور وہ جب پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو دشمن ان سے ڈر کر

بھاگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو ان سے جیسی محبت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ حضور کو اس قدر محبت دنیا میں اور کسی سے نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ بہت ہنسے اور فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ ابو بکر ایسے ہی ہیں۔ صحفدرہ کیسا مبارک ہے وہ انسان جس سے سرور کائنات اس قدر الفت کریں۔ بھلا اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ!

استثانی۔ کتے میں جو بوڑھی کینزیں ایمان لے آئیں حضرت ابو بکر نے انہیں خرید خرید کر آزاد کر دیا اور یہ آپ کا معمول ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد نے کہا کہ تم بوڑھوں کو آزاد کرتے ہو۔ اگر جوانوں کو بھی آزاد کر اؤ تو وہ وقت پر تمہارے کام آئیں اور تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ مگر آپ نے جو اب دیا کہ اس سے میرا مقصد ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ محض خداوند کریم کی رضا مندی حاصل کرنا ہے! آپ نے سات ایسے آدمیوں کو آزاد کیا۔ جن کو محض اسلام لانے کی غرض سے ستایا جاتا اور عذاب دیا جاتا تھا۔

صفیہ۔ آپ کی نیکیوں کا شمار کرنا آسان نہیں ہے۔
 استثانی۔ حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ میں اپنی امت سے دو امیدیں رکھتا ہوں ایک یہ کہ وہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھیں۔ دوم لا الہ الا اللہ سے نہ پھریں۔

ابو بردار کی روایت ہے کہ ایک روز صدیق رسول ﷺ اللہ کی خدمت میں آئے۔ میں بھی موجود تھا۔ انہوں نے بعد سلام عرض کیا کہ میرے اور عمرؓ کے درمیان کچھ رنج ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں ان کی طرف بڑھا۔ مگر پھر میں نے ناوم ہو کر ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رسول خدا نے یہ سن کر تین بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ بھی ناوم ہو کر حضرت ابو بکر کے مکان پر گئے اور ان کے وہاں نہ ملنے پر رسول خدا کی خدمت میں آئے تو انہیں دیکھ کر رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اب حضرت ابو بکر کو بھی حضرت عمرؓ پر رحم آ گیا۔ مگر حضرت عمرؓ دوزانو ہو کر کہنے لگے کہ یا نبی اللہ میں نے سخت ظلم کیا ہے! اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب خدا نے مجھے تم پر نبی بنا کر بھیجا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا مگر ابو بکر نے مجھے سچا سمجھا۔ میری تصدیق کی اور جان و مال سے میری مدد کی۔ مگر اب تم میرے دوست کو چھوڑے دیتے ہو! میرے دوست کے معاملے میں مجھے آزار نہ دو! اگر خدا ابو بکر کو میرا دوست نہ کہتا تو میں انہیں اپنا خلیل بنا دیتا۔ مگر اسلامی اخوت اس سے زیادہ افضل ہے! حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کے بعد کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ یعنی کسی صحابی نے حضرت ابو بکر سے جھگڑا نہیں کیا

بلکہ ان کا ادب کرتے رہے۔
 ایک بار عقیل بن ابوطالب بھی حضرت ابوبکر سے کشیدہ ہو گئے اور
 اس کی اطلاع آنحضرت کو ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے دوست
 (ابوبکر) کو میرے واسطے چھوڑ دو۔ اپنی حالت اور اس کی شان
 دیکھو۔ وائتد تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے دروازے
 پر اندھیرا نہ ہو۔ مگر ابوبکر کے دروازے پر روشنی ہے۔ وائتد تم
 سب نے میری تکذیب کی۔ لیکن صدیق نے تصدیق کی۔ تم نے
 مال سے نخل کیا۔ مگر ابوبکر نے مجھے اپنا مال دیا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا
 مگر اس نے مجھے آرام دیا اور میری پیروی کی۔

زیب۔ بے شک!

استثانی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ایک روز نماز فجر پڑھ کر اٹھا
 سے گفتگو کرنے لگے۔ اُن سے سوال کیا کہ آج تم میں سے کس کا
 روزہ ہے؟ عمرؓ بولے کہ اپنی تو میں کہتا ہوں کہ روزہ دار
 نہیں۔ مگر ابوبکر نے کہا کہ رات میں نے روزہ کی نیت کی تھی اور
 آج میرا روزہ ہے۔ رسول اللہ نے سوال کیا کہ آج کسی نے کسی
 مریض کی عیادت کی؟ یہ سن کر حضرت عمرؓ بولے کہ میں تو آج گھر سے
 باہر ہی نہیں نکلا۔ ابوبکر بولے کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن
 عوف علیؓ ہیں۔ پس میں ان کی عیادت کر کے آ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ
 نے سوال کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تمام

صحابی خاموش رہے۔ مگر حضرت عمرؓ بولے یا رسول اللہ! میں تو
 آج صبح سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اس پر ابو بکرؓ بولے کہ مجھے
 مسجد میں ایک سائل ملا تھا۔ عبد الرحمن بھی وہاں موجود تھے جن کے
 ہاتھ میں جوگی ایک روٹی تھی۔ پس میں نے وہ روٹی ان سے لے کر
 سائل کو دے دی۔ رسول اللہؐ نے یہ سن کر ابو بکرؓ کو جنتی ہونے کی
 خوشخبری سنائی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے جب کبھی کوئی نیکی
 کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ ابو بکرؓ پہلے ہی وہ نیکی کام کر چکے
 ہیں۔

کنیز قاطمہ۔ واہ مسلمان ہو تو ایسا ہو۔

استمائی۔ ربیعہ سلمیٰ اور حضرت ابو بکرؓ کے درمیان کسی بات پر
 جھگڑا ہو گیا تو صدیقؓ نے ایک ایسی بات کہہ دی جو ربیعہ کو ناگوار
 ہوئی۔ لیکن پھر ابو بکرؓ نا دم ہو کر بولے کہ تم بھی وہی الفاظ کہہ کر بدلا
 لے لو۔ مگر ربیعہ نے اس سے انکار کیا۔ اس پر وہ بولے کہ تمہیں کہنا
 پڑے گا۔ ورنہ رسول اللہؐ ناخوش ہوں گے۔ مگر ربیعہ نے پھر بھی
 انکار کیا اور رسول اللہؐ کی خدمت میں پہنچے۔ صدیقؓ بھی وہاں آئے
 حضرت ابو بکرؓ نے تمام واقعہ عرض کیا تو رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ربیعہ!
 ان کی شان میں ایسا کلمہ نہ کہنا۔ بس یہ کہہ دو کہ خدا سے تمہارے
 تمہیں معاف کرے۔ چنانچہ انھوں نے یہی کیا۔

رقیبہ۔ صحابہ بھی حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت تسلیم کرتے تھے خود رسول اللہؐ

آپ کی بے حد عزت کرتے تھے۔

استثنائی۔ ایک بار رسول مقبولؐ نے فرمایا کہ تین سو ساٹھ نیک عادتیں ہیں۔ پس خدائے تعالیٰ جس انسان کی پھلانی چاہتا ہے اسے ان میں سے ایک خصلت عنایت کر کے اسے جنتی بنا دیتا ہے یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ بولے کہ یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے؟ نبیؐ اللہ نے فرمایا کہ تم میں تو تمام کی تمام نیک خصلتیں موجود ہیں خدائے تمہیں مبارک کرے۔

روایت ہے کہ جب حضرت کی مجلس میں صدیق اکبرؓ نہیں ہوتے تھے تو آپؐ ہر صحابیؓ سے گفتگو کرتے تھے۔ مگر جب وہ آجاتے تھے تو رسول اللہ صرف انہیں کو خطاب کرتے اور باقی تمام صحابہؓ سنا کرتے تھے۔

ایک دن حضورؐ نے فرمایا کہ صدیق کی محبت اور ان کا شکر یہ میری گل امت پر واجب ہے۔

صفدرہ۔ کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ استثنائی۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکرؓ ہمارے سردار ہیں اور ان کے ایمان کا پلڑا روئے زمین کے انسانوں سے بھاری ہے۔ وہ ہر بات میں بزرگ اور افضل ہیں۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے کہ ہم نیکی میں ابو بکرؓ سے کبھی نہیں بڑھے۔ وہ

رسول اللہ کے بعد مکمل انسانوں سے افضل ہیں۔ پیری محبت اور
 ابو بکر کا بغض کسی مومن کے دل میں یک جا جمع نہیں ہو سکتا۔ ربیع
 بن انس کا قول ہے کہ کسی نبی یا رسول کو ابو بکر جیسا ایک بھی صحابی
 نصیب نہیں ہوا۔

ابو حصین کہتے ہیں کہ اولاد آدم علیہ السلام میں انبیاء و مرسلین
 کے بعد ابو بکر سے بہتر کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا بلکہ مرتدوں
 سے جہاد کرنے میں تو آپ نے نبی کا کام کیا۔

کنیز فاطمہ۔ واقعی یہ فتنہ نہایت سخت تھا جسے آپ نے مٹایا۔

استثانی۔ ابو بکر کو یا آنحضرت کے وزیر تھے۔ حضور ہر بات میں

ان سے صلاح و مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے

بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا رسول اللہ نے وفات سے چند روز

پہلے ایک خطبہ میں فرمایا کہ۔

”خدا نے ایک بندے کو مختار کیا۔ ابو بکر کے دروازے کے سوا

تمام دروازے بند کر دیئے گئے“ دوسری روایت کے الفاظ

یہ ہیں کہ ابو بکر کی کھڑکی کے سوا باقی کھڑکیاں بند کر دی گئیں، علماء

کا قول ہے کہ یہ ابو بکر کی خلافت کا اشارہ تھا۔ کیونکہ آپ تیار

پڑھانے کے واسطے کھڑکی ہی سے تشریف لایا کرتے تھے!

سکینہ۔ وہ جنتی بندے تھے!

استثانی۔ آخر کار ابو بکر صدیق کے سفر آخرت کا وقت قریب آ گیا

اور ان کی طبیعت علیل ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے، رجبِ اواخر پیر کے روز غسل کیا تو اسی روز آپ کو بخار ہو گیا۔ اس دن سردی تھی۔ آپ پندرہ روز تک نماز کے واسطے بھی باہر نہ نکل سکے۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت صدیق کی خدمت میں پتکا ہوا گوشت بھیجا تھا۔ اس دن آپ نے حارث بن کلدہ کو بھی اپنے ساتھ کھلایا مگر حارث نے کہا کہ اس کھانے میں زہر ہے اسے نہ کھائیے۔ ہم دونوں اس زہر سے اس سال کے اندر اندر مر جائیں گے آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ مگر اسی روز سے بیمار ہو گئے اور دونوں نے اسی سال وفات پائی۔

سکینہ۔ کیسے کیسے سیاہ دل انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جو صدیق ایسے فرشتہ خصلت انسان کو بھی زہر دیدیتے ہیں۔ توبہ۔ توبہ۔ استغاثی۔ ان کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے؛ علالت کے زمانہ میں ایک صحابی نے خلیفہ سے عرض کیا کہ حکم ہو تو کسی حکیم کو لاؤں تاکہ وہ آپ کا علاج کرے۔ آپ نے فرمایا کہ حکیم نے مجھے دیکھا ہے دریافت کیا۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ خلیفہ نے فرمایا۔ اس نے کہا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک روز بیماری کی حالت میں پوچھا کہ آج کیا دن ہے؟ جواب ملا کہ پیر! اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو میری لاش رکھ نہ چھوڑنا

بلکہ آج ہی : فنا دینا۔ کیونکہ میں رسول اللہ کے پاس جلد سے جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔

ابن عمر کا قول ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہوتے ہی حضرت صدیق مکرور ہوتے چلے گئے اور ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا یہاں تک کہ اسی حادثہ کے اثر سے وفات پائی۔

کنیز قاطمہ : واہ محبت اور جاں نثاری ہو تو ایسی ہو !
استانی : حضرت ابو بکر نے کھجور کا ایک درخت حضرت عائشہ کو دے رکھا تھا۔ مگر خلیفہ نے وفات سے کچھ پہلے ان سے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش حال دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی بات میری خوشی کا سبب ہے۔ اس کے خلاف تمہاری مفلسی میرے لئے رنج کا باعث اب تک کھجور کے درخت سے تم نے جو فائدہ اٹھایا وہ تمہارا حق تھا لیکن میرے بعد وہ درخت ترک ہو جائے گا۔ پس اس میں سے اپنے بہن بھائیوں کو بھی حصہ دینا۔ یہ سن کر عائشہ نے فرمایا کہ میں ان کو ہرگز محروم نہ کروں گی۔ مگر میری بہن تو صرف ایک ہیں یعنی استہما اس پر خلیفہ نے فرمایا کہ نہیں ایک اپنی ماں کے پیٹ میں بھی تو ہے یہ آپ کی دختر تھیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئیں اور ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔

رقیبہ خلیفہ کیسے دوزاندیش اور کس قدر انصاف پسند تھی کہ پیٹ کے بچے کا بھی خیال رکھا۔

استثانی۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے وصیت کی تھی کہ جس طرح اور مسلمان اپنے مال کا پانچواں حصہ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اسی طرح میرا پانچواں حصہ مال بھی خیرات کیا جائے اور اس کا مالک کوئی رشتہ دار نہ بن جائے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ خلیفہؓ نے ایک بھی درم یا دینار ایسا نہیں چھوڑا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو۔

کنیز فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ!

استثانی۔ حضرت عائشہؓ نے خلیفہ کی بیماری کی حالت میں ایک شہر پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ: "جب موت کی ہچکلی لگ جائے اور سینہ تنگ ہو جائے تو مال کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا۔" یہ سن کر خلیفہؓ نے منہ سے چادر اٹھا کر فرمایا کہ یہ کہو۔ اور موت کی بیہوشی آئی جو بالتحقیق وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اس کے بعد وصیت فرمائی کہ مجھے ان ہی دنوں استعمال شدہ کپڑوں میں کفنا دینا کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ خلیفہؓ نے پوچھا کہ رسول مقبولؐ نے کس دن وفات پائی تھی جو اب ہلاکم پیر کے روز۔ فرمایا کہ خیر بس رات کی دیر ہے۔ چنانچہ آپؐ نے شبہ و منگل کی رات کو وفات پائی اور صبح سے پہلے دفن کئے گئے۔

رقیبہ۔ ان پر رسول اللہ کی جدائی شاق تھی!

استثانی۔ واقدی سے روایت ہے کہ جب صدیق اکبرؓ کا مزاج

زیادہ بگڑا تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے سوال کیا کہ تم حضرت عمرؓ
 کو کیسا سمجھتے ہو؟ وہ بولے آپ انھیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں
 پس کہ خلیفہ بولے تم بھی اپنی رائے بتاؤ۔ عرض کیا کہ آپ کی جو رائے
 ان کے متعلق ہو وہ اس سے بھی افضل ہیں۔ پھر خلیفہ نے حضرت عثمانؓ
 ابن عفان سے یہی سوال کیا تو پہلے انھوں نے کہا کہ خلیفہ بہتر
 جانتے ہیں۔ پھر اصرار کے بعد فرمایا کہ عمرؓ کا ظاہر و باطن یکساں ہے اور
 ہم تمام میں ان کی مانند ایک بھی تو نہیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے سعید
 بن زید اور زید بن جعفر اور دوسرے ہماجروں اور انصار سے
 رائے لی تو انھوں نے عمرؓ کے متعلق فرمایا کہ وہ نیکیوں کے ساتھ نیک
 اور برائیوں کے ساتھ برے ہیں اور ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا
 ہے! اس امت میں ان سے زیادہ طاقت ور کوئی نہیں۔ اس کے
 بعد کچھ اور صحابہ آئے تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ عمرؓ
 جیسے سخت گیر آدمی کو ہمارا خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ خدا کو اس کا
 جواب کیا دیں گے؟ یہ سن کر خلیفہ نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا
 تھا۔ میں خدا سے تعالیٰ کو یہ جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندے
 ایک ایسے انسان کے سپرد کیے ہیں جو ان سب میں بہتر ہے۔ خلیفہ
 نے ایک روز بیماری کی حالت میں باہر نکل کر اصحاب سے فرمایا کہ میں نے
 جس شخص کو تم پر حاکم بنایا ہے۔ کیا تم اس سے راضی ہو؟ جواب
 ملا کہ سبے شک! مگر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ بشرطیکہ وہ عمر بن خطابؓ

ہوں اس پر خلیفہ سے جو اب دیا کہ ہاں وہی ہیں !
 سکینہ بڑے انصاف پسند بزرگ تھے !
 استثنائی ۔ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو بلا کر
 انہیں وصیت لکھنے کو فرمایا اور لکھو پایا ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ وہ تحریر ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ سے دار فانی سے
 جاتے اور عالم عقیقی میں قائم رکھتے وقت لکھائی !
 اسے مسلو !

میں تم پر عمر ابن خطابؓ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں پس تم پر
 ان کی اطاعت فرض ہے ۔ میں نے اللہ و رسول اور دین
 کی خدمت میں کمی نہیں کی ۔ میرے نزدیک عمرؓ سب میں
 اچھے ہیں ۔ اگر انھوں نے عدل کیا تو میرا خیال درست
 نکلا ۔ اور اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے اعمال کا
 جواب دہ ہے ۔ میں نے امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ
 کیا ہے ۔ لیکن میں غیب داں نہیں ہوں ۔ تاہم ظالم کو سزا
 ملے گی ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ۔

خلیفہ نے اس تحریر پر اپنی ہر لگائی اور حضرت عثمانؓ اسے لے کر چلے گئے
 اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت عمرؓ سے برضا و رغبت بیعت کرنی
 کچھ دیر بعد حضرت ابو بکرؓ نے عمر کو بلوایا ۔ ان کو خلوت میں کچھ ہدایات کیں

اور ان کے چلے جانے کے بعد حسب ذیل دعا فرمائی اور
 الہی! میں نے یہ سب کچھ مسلمانوں کی بھلائی کے واسطے کیا
 ہے۔ میں نے جس فتنے سے ڈر کر یہ کارروائی کی ہے اسے
 تو خوب جانتا ہے میں نے اس کام میں اپنی برائے سے
 کام لیا ہے اور سب سے بہتر اور قوی شخص کو مسلمانوں
 کا سردار بنایا ہے۔ خدایا! میں تیرے حکم سے دنیا چھوڑتا
 ہوں اپنے بندوں کا مالک تو ہی ہے! الہی مسلم حاکموں کو
 صلاحیت عطا کر اور عمر کو خلفاء راشدین میں سے بنا۔ اور
 عام مسلمانوں میں بھی صلاحیت پیدا کر!

اس موقع پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ جو بات ابو بکرؓ نے کہی ہے اسے رد
 کرتے مجھے شرم آتی ہے۔

خلیفہ نے یہ بھی وصیت کی کہ میری زوجہ اسماء بنت عمیس غسل دیں
 اور میرے فرزند عبدالرحمنؓ پانی ڈالیں۔ پھر حضرت عائشہؓ کو وصیت کی
 کہ مجھے رسول کریمؐ کے برابر دفن کرانا۔ آخر کار خلیفہ نے منگل کی رات
 بتاریخ ۲۶ جمادی الآخرہ ۳۰ برسہ ۳۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔
 وصیت کے مطابق آپ کی زوجہ و فرزند نے غسل دیا اور عمر بطحہ
 عثمانؓ اور عبدالرحمنؓ بن ابی بکرؓ نے قبر میں اتارا۔ آپ رات ہی کو دفن
 ہوئے۔ آپ کی وفات کی خبر نے مدینہ بھر میں شور برپا کر دیا۔ آپ کی
 والدہ بانی قحاذ نے اس کا سبب پوچھا اور اپنے فرزند کی خبر مرگ سن کر

فرمایا کہ ”آہ! کیسی سخت مصیبت آئی“۔ سوال کیا کہ اپنا جانشین کے بنایا ہے جو اب ملا کہ عمر بن خطابؓ کو۔ یہ سن کر ابی قحافہ بولے کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ابو بکر کے دوست خلیفہ بنے۔

ابی قحافہ کو ابو بکر کی میراث کا حصہ پہنچا مگر وہ انھوں نے اپنے پوتے کو دے دیا اور بیٹے سے چھ مہینے اور دو دن بعد سفر آخرت کیا ستاونے برس کی عمر پائی۔ ۱۲ محرم کو انتقال ہوا۔ صرف صدیق ہی ایسے خلیفہ ہوئے جو اپنے والدین کی حیات میں خلیفہ ہوئے اور صرف خلیفہ ابو بکر کے باپ ہی نے ان کی وراثت میں حصہ پایا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق نے دو سال سات مہینے خلافت کی۔

حسینہ۔ تاہم اس قلیل مدت میں بھی اسلام اور مسلمانوں کی بے حد

خدمت کی اجزا ک اللہ
استثنائی خلیفہ صدیق سے صرف ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس حدیثیں روایت کی گئی ہیں جس کا سبب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد بہت تھوڑی مدت زندہ رہے اور اس وقت تک حدیثوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم تھی۔ تاہم خلیفہ صدیق کو بہت حدیثیں یاد تھیں ان سے بہت سے صحابہ نے روایت کی۔

جب خلیفہ ابو بکر اونٹ پر سواری کرتے تھے تو ان کے ہاتھ سے اکثر چمچی گر جایا کرتی تھی پس وہ اونٹ سے اتر کر خود اٹھاتے اور کسی دوسرے آدمی سے نہ کہتے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیا

کہتے تھے۔ اس پر خلیفہ نے فرمایا کہ حضور رسول کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ کبھی کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگا کرو۔

کنیئر فاطمہ۔ گویا یہ بھی سوال تھا! واللہ! یہی نیک لوگ تھے۔ بڑے منکسر مزاج۔

استماعی۔ ایک بار حضرت ابو بکر نے حجر اسود کی طرف دیکھے ہوئے فرمایا۔ اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ رسول مقبول نے بھی بوسہ دیا ہے تو مجھے بوسہ نہ دیتا۔

ترمذی نے ابو بکر سے روایت کی ہے کہ سلمان کو نقصان پہنچانے والا۔ یا اس کے ساتھ مکر کرنے والا ملعون ہے۔

احمد نے حضرت صدیق سے روایت کی کہ بخیل اور بد خو و ظالم بادشاہ بہشت میں داخل نہیں ہونے پائے گا۔ اور جنت میں سب سے پہلے وہ غلام جائیں گے جنہوں نے خدائے تعالیٰ اور اپنے آقا کی اطاعت کی ہوگی! غلام کی ولایت اسے پہنچتی ہے جو اسے آزاد کرے۔

ایک دن حضرت ابو بکر کا گزرا یہی جگہ ہوا۔ جہاں امام حسن کھیل رہے تھے۔ آپ نے انہیں اٹھا کر کندھے پر بٹھالیا اور فرمایا کہ ان کی شکل علی کی نسبت رسول اللہ سے زیادہ ملتی ہے۔

طبرانی نے ابو بکر سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قوم نے جہاد چھوڑ دیا وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔

رقیم ہندوستان کے مسلمان تو گویا جہاد کو قبول ہی گئے۔ سناؤ
وہ اسی وجہ سے پست ہوئے!

استثنائی حضرت ابو بکرؓ نے عام طور پر قرآن شریف کی آیات
کی تفسیر بیان کرنے سے پرہیز کیا مگر صرف احتیاط کے خیال سے۔
امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے
میراث میں داد کو باپ اور پوتے کو بیٹا گزانا ہے۔ بشرطیکہ باپ اور
بیٹے زندہ نہ ہوں۔

حضرت ابو بکرؓ نے یہ دیکھ کر کہ ایک شخص اپنے باپ کو ملامت کر رہا
ہے فرمایا کہ اس کے سر میں لگاؤ کہ سر میں شیطان گھس گیا ہے۔
عاصم ابن عمرؓ کا اپنی ماں سے بھگڑا ہو گیا تو حضرت ابو بکرؓ نے
ان کا فیصلہ کرنے کے بعد فرمایا کہ "عاصم تم یہ بات خوب سمجھ لو کہ
تمھاری والدہ کی جسمانی اور مالی ہر چیز تم سے لاکھ درجہ اچھی ہے! یہ
ایک شخص خلیفہ ابو بکرؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا باپ مجھ سے تمام
مال چھین کر مجھے فقیر بنا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلوا کر
فرمایا کہ تم صرف اپنی ضرورت کے موافق لے لو۔ وہ بولا۔ مگر رسول اللہ
نے تو بیٹے کے حق میں فرمایا ہے کہ "تو اور میرا تمام مال میرے باپ
کے واسطے ہے" یہ سن کر خلیفہ نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف
نفقہ ہے!

حضرت ابو بکرؓ نے جو فوج شام کو بھیجی اس کا پہلا سالاریزید

ابن سفیان کو بنایا اور روانگی کے وقت اسے حکم دیا کہ دیکھو کسی عورت
بچے۔ بوڑھے یا اپاہج کو قتل نہ کرنا۔ نہ بھیل دار و رخت کا ٹٹا۔ نہ کھیتی
خراب کرنا۔ بکری یا اونٹ کی ٹانگیں نہ کاٹنا۔ کھالینے کا ٹڑ نہیں کھجور
کا درخت نہ ہڑ سے اکھاڑنا اور نہ جلانا۔ نہ فضول خرچی کرنا اور نہ بخل
کنیز فاطمہ۔ حضرت ابو بکرؓ کہتے رحم دل انسان تھے؛

استثانی۔ حضرت ابو بکرؓ نے زینب نامی ایک عورت کو خاموش
پاکر اس کی وجہ دریافت کی تو لوگوں نے کہا کہ اس نے خاموشی کا حج
کیا ہے اس پر خلیفہؓ نے کہا کہ یہ ایام جاہلیت کی رسم ہے۔ اسلام اس کا
روادار نہیں آپ نے اس عورت کو بولنے کا حکم دیا تو اس نے خلیفہؓ
سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں مہاجر و
انصار سے ہوں۔ وہ بولی کہ مہاجرین میں سے ہے فرمایا۔ قریش میں
سے۔ اس پر عورت نے سوال کیا قریش کے کس خاندان سے ہے اس پر
خلیفہؓ نے فرمایا۔ زینب تم تو بڑی باتی ہو! میں ابو بکر ہوں۔ اب
عورت نے پوچھا کہ ہم کو موجودہ دین پر کون قائم رکھے گا؟ جواب ملا
کہ امام ہے اس پر عورت نے سوال کیا کہ امام کون ہوتے ہیں خلیفہؓ نے
پوچھا کہ کیا تیری قوم میں حکمران نہیں ہے اس نے کہا میں تو خلیفہؓ نے
جواب دیا کہ بس وہی امام ہیں!

رقیہ۔ سبحان اللہ!

استثانی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ

صدیق کے پاس ایک غلام تھا جو بازار سے سودا وغیرہ خرید کر لایا کرتا تھا۔ وہ ایک روز کھانے کی کوئی چیز لایا اور وہ خلیفہ کو کھلا دی مگر اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں یہ چیز کہاں سے لایا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ چیز مجھے اس شخص نے دی تھی جس کے متعلق میں نے پیش گوئی کی لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیش گوئیاں محض قیاس ہوتے ہیں یعنی جھوٹی باتیں۔ خلیفہ نے یہ سن کر فوراً صلیب میں انگلی ڈال کر تے کر دی۔

ابن سیرین کا قول ہے کہ میں نے صدیق کے سوا اور کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے مشکوک کھانا کھا کر تے کی ہو۔

ایک روز حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ابو بکرؓ اپنی زبان پکڑے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ اسی (زبان) نے مجھے مصیبت میں کھنسا یا۔

حضرت ابو بکرؓ نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو اپنے ایک ہمسایہ سے جھگڑا کرتے دیکھا تو ان سے بولے۔ ہمسائے سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ وہ تو باقی رہے گا مگر لوگ تمہاری چرچا کریں گے؟

حسینہ سجان اللہ! رواداری کی کیا اچھی نصیحت ہے!

استمانی۔ ایک پارچہ پادری پر بیٹھ کر چہچہانے لگی تو خلیفہ ابو بکرؓ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو بڑی ہی خوش نصیب ہے کہ یوں ہری کو نپلیں چگتی پھرتی ہے۔ درختوں کے سایہ میں بیٹھتی ہے اور بے حساب جہاں جی چاہتا ہے اڑتی پھرتی ہے۔ کاش ابو بکرؓ بھی تیری ہی مانند ہوتا

جب کوئی شخص خلیفہ ابو بکر کی تعریف کرتا تو آپ فرمایا کرتے۔ الہی میں اپنے آپ کو جانتا ہوں مگر تو مجھے مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ پس خدایا مجھے ویسا ہی کر دے جیسا لوگ مجھے سمجھتے ہیں! اور لوگ میرے جو گناہ نہیں جانتے انھیں معاف کر دے۔ نیز لوگوں کے حسن ظن کا مواخذہ مجھ سے نہ کر۔

جہاد کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر نماز کے واسطے کھڑے ہوتے تو خوف خداوندی سے لکڑی کی مانند ہوجایا کرتے تھے۔

آپ نے ایک بار فرمایا کہ کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ ڈالا جاتا اور جانور مجھے کھا جاتے۔ یا گھاس پات ہوتا کہ چرندے چر جاتے۔

فاطمہ بنتکسر المزاجی کی حد ہو گئی۔ حالانکہ وہ افضل ترین انسان تھے! استثنائی۔ حمزہ بن حبیب کی روایت ہے کہ حضرت صدیق کے ایک فرزند اپنے انتقال کے وقت اپنی مسند کی طرف بار بار دیکھتے تھے خلیفہ کو اس کی خبر ہوئی تو مسند اٹھوا کر دیکھی اس کے نیچے سے پانچ دینار نکلے۔ صدیق اکبر ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تمہارا دشمن تمہارے ساتھ رہے۔

کنیز فاطمہ۔ واہ! مال و دولت سے کس قدر نفرت کرتے اور دنیا سے بھاگتے تھے۔

رقیبہ۔ ایسے ہی انسان تو اپنا مال و دولت خدا کی راہ میں قربان

کر سکتے ہیں !
 کینیٹر فاطمہ - آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق جو کچھ فرمایا
 اس سے ان کی فضیلت ثابت ہے۔ لیکن کیا رسول مقبول کا کوئی
 زیادہ قریبی رشتہ دار صدیق سے زیادہ خلافت کا مستحق نہ تھا ؟
 استہانی - خلافت میں رشتہ داری یا وراثت کا لحاظ نہیں۔ نبی
 بھی وراثتاً نبوت نہیں پاتا بلکہ خدا سے تعالیٰ یہ دولت اپنے خاص
 کرم سے ایسے انسان کو عطا کرتا ہے جسے اس کا اہل پاتا ہے۔
 چنانچہ رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ "ہم (نبی) نہ کسی کے وارث
 ہوتے ہیں۔ نہ ہمارا ہی کوئی وارث ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ چھوڑ
 جائیں وہ صدقہ ہے یعنی عام مسلمانوں کے واسطے ہے کہ انہ رسول کریم
 کے والد عبداللہ نبی تھے اور نہ داد عبدالمطلب نبی۔ اگر حضور پر نبوت
 کا سلسلہ ختم نہ ہو گیا ہوتا تو بھی یہ لازمی نہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کا
 بیٹا (اگر کوئی زندہ ہوتا) نبی بنتا۔ لیکن خدائی فیصلہ یہ ہو چکا تھا کہ
 "محمد صلعم کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے۔ بلکہ آپ ہی پر
 نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔"

پس اب حضور کے کوئی فرزند نہیں تو کوئی جائشینی کا دعویٰ اربھی نہیں۔
 رقیہ - اور عزیز قریب ؟

استہانی - قرابت کی بات یہ ہے کہ جب بیٹا ہی نبی کا جائشینی نہیں
 ہو سکتا تو پھر نبی کا جائشینی اس کے کسی قریبی رشتہ دار کا ہو نا بھی

لازمی نہیں۔ کیونکہ بیٹے سے زیادہ قریبی رشتہ دار اور کون ہے
 پھر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو حسب قاعدہ و اصول یہ امر ضروری
 نہیں رہا کہ نبی کا جانشین کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ پس جانشینی
 کا مستحق صرف وہی شخص تھا جس کی بابت خود نبی کریم نے اپنی حیات
 میں اسے امام بنا کر اس بات کا گویا اشارہ کر دیا اور پھر عام
 مسلمانوں نے محض قابلیت کا لحاظ کر کے اسے انتخاب کیا۔ پس اس
 کے سب سے زیادہ مستحق حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ چنانچہ انھیں
 کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور یہ رسول اللہ کی مرضی اور نشانے خداوند
 تعالیٰ کے ماتحت ہوا۔ کیونکہ کمزور انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ
 خدائے قہار سے بغاوت کرے۔ اگر رسول اللہ اپنی قرابت کا لحاظ
 کرتے تو پھر اپنے چچا حضرت عباسؓ یا اپنے عم زاد بھائی یا داماد
 حضرت علیؓ کو امام بناتے اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کے وصال کے
 بعد مسلمان بھی بے تامل اسی بزرگ کو خلیفہ بنا لیتے جسے رسول نے امت
 کے واسطے انتخاب کیا تھا۔ لیکن نبی اللہ نے اپنے اقربا کو نظر انداز
 کر کے حضرت ابو بکر کو اس کا زیادہ اہل سمجھا اس لیے انھیں امام
 بنایا اور پھر مسلمانوں نے بھی انھیں ہی خلیفہ انتخاب کیا اور یہ سب کچھ
 نشانے خداوندی کے ماتحت ہوا۔ کیونکہ رضائے خداوندی کو
 خلاف نہ کچھ رسول کریمؐ کر سکتے تھے اور نہ مسلمان۔
 مصفیہ۔ جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے حضرت صدیق کی فضیلت ثابت ہے۔

استانی۔ ہاں نبیؐ نے فرمایا کہ کبھی آفتاب کسی ایسے شخص پر (سوائے انبیاء کے) نہ طلوع ہو اور نہ غروب ہو ابو بکرؓ سے افضل ہو ایک بار حضورؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل ابو بکرؓ ہیں۔

ایک بار محمد بن علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا کہ نبیؐ کے بعد کون افضل ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکرؓ ہیں اور علیؓ نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے زیادہ خلافت کے مستحق حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں۔ کیونکہ وہی افضل ہیں۔

تفسیر حسن عسکری میں تحریر ہے کہ نبیؐ نے شب ہجرت حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا۔ (اے ابو بکر) خداے تعالیٰ نے مجھے گویا میری سماعت اور بصارت گردانا اور مجھے تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کو جسم اور روح کو بدن کے ساتھ ہے۔

دیکھو۔ بچھو! ان تمام باتوں سے بھی حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے!

سکینہ رہے شک!

رقیبہ! لیکن استانی جی یہ کیا بات ہے کہ حضرت صدیق نے خلیفہ بن جانے کے بعد حضرت بی بی فاطمہؓ کو نبی اللہ کا ترک نہیں دیا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ کیا پانچ فدک کی مالک وہی نہ تھیں!

استانی۔ رقبہ! شاید تمہیں یاد نہیں رہا۔ میں تو پہلے ہی بتا چکی

کہ نبیوں کے ترکہ کے وارث عام لوگوں کی مانند ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ عام اُمت ہوتی ہے اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ باغ فدک حضرت رسول کریم کو بطور مال نے بے جہاد و جنگ خیبر میں ملا تھا۔ حضور اس کی آمدنی قرآن کریم کے حکم کے ماتحت۔ قریبوں۔ یتیموں۔ مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے رہے۔ پھر جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انھوں نے بھی رسول کی پیروی کی۔ یعنی باغ فدک کی آمدنی مساکین اور یتیمی وغیرہ پر صرف کی۔ ان کے بعد باقی خلفاء حضرات عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ کے زمانوں میں بھی یہی قاعدہ جاری رہا۔ حضرت حسنؓ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور کسی زمانہ میں اس پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت علیؓ اور حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا پس اس سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو کچھ کیا قرآن کریم کے اصول کے مطابق بالکل صحیح کیا۔ خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کیا۔

سب۔ بے شک! بے شک!

استمائی۔ پھر اگر نبی اللہ کا ترکہ اور باغ فدک۔ وراثت کے عام قاعدے کے مطابق ان کے قرابت داروں کو پہنچتا تو پھر اس میں بی بی فاطمہ کے علاوہ آٹھویں حصہ کی مستحق حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ بنت حضرت عمر خطاب اور دیگر ازواج مطہرات نبی اللہ بھی تھیں انصاف سیدۃ الزہراء کو اور باقی آنحضرت کے چچا حضرت عباس کو

ملتا۔ لیکن یہ ثابت ہے کہ ان میں سے کسی بزرگ نے مطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہ سب قرآن کریم پڑھتے اور سمجھتے تھے اور رسول اللہ کی حدیث انھیں یاد تھی پس وہ خاموش رہے اور جو کچھ ہوا انھوں نے اس درستی اور حسب انصاف سمجھا اور یہ صحیح تھا۔ اگر یہ مان لیں کہ اول کے تینوں خلفاء نے انصاف درست نہیں کیا تو حضرت علیؑ اپنی خلافت کے زمانے میں اس غلطی کی اصلاح کر سکتے تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوا اس لیے ابو بکر صدیقؓ نے جو کچھ صحیح کیا۔ اسی واسطے حضرت امام حسینؑ نے بھی اس قاعدے میں تبدیلی نہیں کی۔ چنانچہ وہ بھی باغ فدک کی آمدنی سے یتیموں اور مسکینوں وغیرہ ہی کی خدمت کرتے رہے۔

فاطمہ سبحان اللہ! انصاف اور خدا ترسی اسی کا نام ہے؛ استثنائی۔ سو بہت تعصب عیسائی تک یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ گویا ایک زبردست بادشاہ تھے اور ان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہ تھا لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ بالکل سادہ زندگی بسر کرنے اور بیت المال سے اپنے گزارے کے واسطے صرف سوار و پیہ روزانہ لیتے تھے۔ اس کے باوجود انھوں نے ارتداد کا فتنہ مٹایا۔ عراق و شام فتح کئے۔ نہ کسی کو فریب دیا نہ کسی سے فریب کھایا پس جس انسان نے حق کی خاطر خود زیادہ نہیں لیا وہ کسی کا حق کیسے مار سکتا تھا اور نہ حق سے زیادہ کسی کو کچھ دے سکتا تھا اس کا

نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خدا نخواستہ حضرت فاطمہ کا حق غصب نہیں کیا
 مرثیہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علیؑ ابو بکر صدیق کی بیعت پر اسطرح
 مجبور کئے گئے کہ ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور حضرت عمرؓ اور خالدؓ
 انہیں (حضرت علیؑ کو) کھینچ کر حضرت ابو بکر کے پاس لے آئے۔ اور
 اس سے پہلے بی بی فاطمہؓ پر یہ غضب توڑا کہ گھر کا دروازہ اکھاڑ کر
 ان پر دے مارا جس کے صدمے سے وہ زخمی بھی ہوئیں اور ان کے
 پیٹ کا بچہ و محسن بھی مر گیا۔ حضرت علیؑ دوڑے ہوئے آئے تو
 فاطمہ کو نیچے سے نکالا۔

استثانی۔ تو یہ تو بہ! خدا کی پناہ۔ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ اور
 بہتان ہے۔ نہ تو تاریخ سے ثابت ہے اور نہ عقل ہی ایسی باتیں مانتی
 ہے۔ صحیح بات یہی ہے جیسا کہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علیؑ
 نے رضا و رغبت کے ساتھ خلافت صدیقی کی تائید کی اور ابو بکر یا عمرؓ
 نے بی بی فاطمہؓ کی نشان میں ہرگز گستاخی نہیں کی۔ بھلا جو لوگ فاطمہؓ
 کے والد پر جی جان صدقہ کرتے تھے وہ ان سے ایسا سلوک کر سکتے
 تھے؟ ہرگز نہیں۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو
 نہیں مان سکتا اور اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ ابو بکرؓ نے
 معاذ اللہ ایسی ناشائستہ حرکت کی تو کیا حضرت علیؑ شہر خدا۔ ان کے
 شوہر ان کے فرزند۔ حضرات حسینؑ اور ان کا خاندان قبیلہ۔ ایسی
 گستاخی گوارا کر سکتے تھے؟ کیا ان کی شجاعت و غیرت جوش میں نہ آتی

کیا خون کی ندیاں نہ بہ جاتیں۔ امام حسین اپنے قلیں ہمدردگاروں کے باوجود حق کے واسطے یزید کی قوت کے مقابل ہوئے تھے اور اس سے اور اس کی کثیر فوجوں سے نہ دبے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ پس کیا اپنی والدہ ماجدہ کی گستاخی دیکھ کر وہ خاموش رہ سکتے تھے؟

لڑکیاں - ہرگز نہیں۔
استثانی - پس یہ باتیں بالکل جھوٹ اور بزرگوں پر بہتان ہے خود حضرت علیؑ ان کے خاندان اور نبیؐ کی توہین ہیں۔ لڑکیو دعا کر دو کہ خدا سے تعالیٰ ان خیالات کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے حال پر رحم کرے۔

سب - آمین!

سکینہ - اور وہ قضیہ قرطاس کا کیا معاملہ ہے؟

استثانی - قرطاس عربی زبان میں کاغذ کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی سن لو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آنحضرت نے بیماری کے زمانہ میں فرمایا کہ تم اپنے باپ اور بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں تحریر کرادوں۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اور لوگ اور آرزو نہ کرنے لگیں اور کوئی اور کہہ دے کہ سب سے اچھا تو میں ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ اور سب مسلمان تو ابو بکرؓ کے سوا اور کا انکار ضرور ہی کر دیں گے۔ "عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کاغذ قلم مانگنے پر جب آنحضرت نے دیکھا کہ لوگوں کو شک پڑ گیا ہے تو

آپ سمجھ گئے کہ اس تحریر سے شبہہ دور نہیں ہوگا! پس اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ حضور کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس پر قائم کر دے گا جو میں نے ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور سب مسلمان ابو بکر کے سوا سب کا انکار کر دیں گے!

رقیم۔ مگر بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کاغذ و قلم حضرت علیؑ کی خلافت لکھانے کے واسطے منگوا یا تھا مگر حضرت عمرؓ نے روک دیا! استغنی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ توبہ کرو لڑکیو! توبہ کرو! سوچو کہ اگر

رسول اللہ حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانا چاہتے اور خدا کی مرضی بھی یہی ہوتی تو کیا حضرت عمرؓ یا کوئی مسلمان مخالفت کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ

اس کی تائید ویسی ہی کی جاتی جیسی خلافت صدیقی کی ہوئی۔ پس خدا اور رسول کو اس وقت یہ منظور نہ تھا کہ حضرت علیؑ خلیفہ بنیں۔ بلکہ

حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنانے میں مصلحت اور بہتری تھی پس انھیں کو خلیفہ بنایا گیا اور واقعات نے بتا دیا کہ یہ بالکل درست انتخاب تھا

اب اس پہلو سے بھی سوچو کہ جب حضرت علیؑ کی خلافت کے

واسطے نبی اللہ نے کاغذ طلب کیا تھا۔ تو خود حضرت علیؑ کاغذ لے کر

کیوں نہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ مگر ایسا نہیں ہوا یعنی حضرت علیؑ کاغذ اور

قلم دو اتارے کہ رسول اللہ کی خدمت میں نہیں گئے اس سے ثابت

ہو کہ یہ بیان غلط اور بہتان ہے کہ رسول خدا حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانا

چاہتے تھے۔ بیسیڈ! جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ گویا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت

ابو بکر اور حضرت عمرؓ وغیرہ نے جو کچھ کیا وہ خدا اور رسول کے احکام اور مرضی کے خلاف کیا۔ حالانکہ ان کی نہ اتنی مجال تھی اور نہ ان میں اس قدر طاقت! خدائے تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت اور توبہ کی توفیق دے! سب۔ آمین!

رقیبہ۔ مگر کیا یہ سچ نہیں کہ رسول اللہ نے بمقامِ خم غدیر حضرت علیؓ کے حق میں فرمایا کہ ”جس کا میں مولا ہوں علیؓ بھی اس کے مولا ہیں“ اور یہ کہہ کر انھیں اپنا جانشین مقرر کیا اور ایک لاکھ چوالیس ہزار مسلمانوں سے بیعتِ خلافت لی۔

استثانی۔ واقعہ کچھ اور ہے مگر بعض لوگوں نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا۔ سنو! میں تمہیں اصلیت بتاتی ہوں۔ جب رسول مقبول نے آخری حج کر کے مدینہ کو کوچ کیا تو بمقامِ خم غدیر قیام فرمایا۔ اس وقت حضرت بریدہ سلمی نے رسول اللہ سے حضرت علیؓ کی کچھ شکایت کی جو یعنی مالِ غنیمت کے متعلق تھی۔ مگر غلط نہیں پر ان کی بنیاد تھی جسے دور کرنے کے واسطے رسول اللہ نے ایک فصیح خطبہ پڑھا جس میں اہل بیت کی شان کا اظہار فرمایا اور حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا (دوست) ہوں علیؓ بھی اسی کے مولا ہیں۔ اس سے غلط نہیں دور ہو گئی۔ جس پر حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو مبارک باد دی حضرت بریدہ کا دل بھی صاف ہو گیا۔ بس صرف یہ واقعہ ہے جس سے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ مگر یہ کہہ کر نہ صرف

حضرت ابو بکر اور تمام مسلمانوں پر رسول اللہ کی نافرمانی کا الزام لگایا جاتا ہے بلکہ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ اس کے باوجود کہ انھیں رسول نے خلیفہ بنایا تھا حضرت ابو بکر کی خلافت پر رضامند ہو گئے بلکہ دب گئے۔ ایک شخص نے ان کا حق مار لیا اور یہ جان کر بھی وہ اور تمام مسلمان خاموش رہے۔ حالانکہ حضرت علیؑ مرد شجاع تھے اور حق کے واسطے جان کی پروا نہ کرنے والے! پس ایسی باتیں صحیح سمجھنا خود حضرت علیؑ کی توہین اور ہتک کرنا ہے۔ خدائے تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچائے۔

پس پیاری بیٹیو! تمام واقعات سے ثابت ہو گیا کہ خلافت نبوی کے مستحق حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں سے زیادہ افضل تھے!

لڑکیو! اب دعا کرو کہ خدائے تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول کریم اور حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر خلفاء راشدین کے احکام اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔

سب آمین!

استثنائی۔ آج کی مجلس ختم ہوئی۔ اب انشاء اللہ اگلے اتوار کو میں تمہیں خلیفہ دوم کے حالات زندگی سے آگاہ کروں گی اور وہ حالات اور بھی زیادہ شاندار ہیں۔

تمام مشہد

مطبوعات قریشی بک ایسی لاہور

- تعلیم النساء کا قاعدہ - لڑکیوں کی ابتدائی تعلیم حروفِ مستناسی اور عبارت خوانی کے لئے قیمت ۱۰
- تعلیم النساء کی پہلی کتاب - جس میں آسمان لفظوں میں توحید و رسالت کے تصور کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ ۳
- تعلیم النساء کی دوسری کتاب - دینداروں کی سلیقہ ادب اور اخلاق کے متعلق ابتدائی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ۶
- تعلیم النساء کی تیسری کتاب - جس میں علاوہ مسائل طہارت و نماز کے نظام خانہ داری کا مفصل ذکر ہے۔ ۹
- تعلیم النساء کی چوتھی کتاب - تمام مسائل دینیہ کی جامع کتاب۔ تمام ضروری مسائل پر ۱۰۰ میں قیمت ۱۲
- تعلیم النساء کی پانچویں کتاب - جس میں عبادات کے فضائل و آداب کا ذکر اور گھر کے کاروبار کا حال ہے۔ ۱۵
- تعلیم النساء کی چھٹی کتاب - جس میں تربیت اولاد کے متعلق نہایت ضروری و کارآمد باتیں درج ہیں۔ ۱۶
- تعلیم النساء کی ساتویں کتاب - قرآن و حدیث کا لب لباب نظم و نثر کی بے مثال کتاب۔ قیمت ۵
- خلافت صدیقیہ - حضرت صدیق اکبر علیہ السلام کے حالات لڑکیوں کیلئے بطور سوال جواب۔ ۵
- خلافت فاروقیہ - حضرت عمر علیہ السلام کے حالات لیس برسوں لڑکیوں کی ذہنی قیمت ۵
- خلافت عثمانیہ - حضرت عثمان علیہ السلام کے حالات اور ان کی شہادت کے درد انگیز حالات۔ ۵
- خلافت حسینیہ - حضرت علی علیہ السلام کے حالات خاص عورتوں کے لئے۔ قیمت ۵
- تاریخ عربیہ منورہ - تاریخ منورہ کی مفصل و پختہ تاریخ معہ نوٹسٹھ - یہ وسیع و سجد بنوی۔ قیمت ۵
- تاریخ کہ خطبہ شہرہ کی نہایت ہی علمی تاریخ - آسمان اور زمین کو کھلی گئی ہے۔ قیمت ۵
- مجموعہ فائزہ - جس میں مشہور اور مستند تصنیف فائزہ کے درج ہیں۔ قیمت صرف ۸
- تیسرے علمیات و نووڈانہ - علمیات و نووڈانہ کی بہترین کتاب۔ قیمت ۵
- بادرچی نمانہ - ہر قسم کے کمانے پکانے اور ایار - مرہب - حلوہ سے بنانے کی ترکیبیں بہت ۱۰
- ذاتی طور پر لکھی - عورتوں اور لڑکیوں کے لئے خطوط لکھی کی آسمان کتاب۔ قیمت ۵
- ذاتی مسلمانوں کی قیمت - ذاتی اور دینی اور دنیویہ نظموں کا سب سے نفیس مجموعہ۔ قیمت صرف ۵
- میلے کا بیٹہ - محمد حفیظ اللہ قریشی صاحب کتب و مالک قریشی بک ایسی لاہور

